خانوادۂ اشرفیہ کی عالمی درسگاہیں

آلِ رسول احمد الاشرفی القادری کٹیہاری

Published By: Jamia Ahsanul Banat Katihar

فہرست

نران ع ت : 04

م : 05

دربراشف : 06

اسثبرگر م ومسں : 00

ت : 09

قلالشف : 11

صب رسل ح ت ہہ رت ی رضال ع : 11

ابالرم عؤالول سن قسس : 11

ش کل ال ی ع الزاق کشقسس : 19

خاج صرالی ابال س م ب نازقسس : 10

ح ت اہم ع ال فی الیہمی یقسس : 14

س خاج بؤالی ن رح ال ع قسس : 16

ح ت م وم س ج ل الی بریقسس : 11

ح ت خ اٹ رح ال ع قسس : 21

ح ت م س عمدان رح ال ع قسس : 22

ح ت ش ن ال ول قسس س قسس : 25

ح ت م صرجں قسس س : 26

ح ت خاج م پرس قسس : 20

ح ت شقام الی ل ی قس س : 21
ح ت خاجا اح ق الی چ قس س : 29
ح ت س بی الی زن ش رام قس س : 40
ح ت س جل الی خرد سرپری قس س : 51
ح ت ش ؒم قس س : 54
ح ت خاجا فح شازی قس س : 55
ح ت ش ابالۂ خرازم قس س : 56
ح تشاس ع سن : 50
ح ت شرالی با س اسالی قس س : 51
ح تش ج بائ : 59
ح ت ش صل سقی قس س : 59
ح ت م سیالقسس : 60
ق عل ح ت رالی پوی قس س : 61
ح ت ضق شب الی دول آہدی ق س س : 61
ح ت ش ص رودولی قس س : 66
ح ت عم ن الی قس س ابا ص ح ای : 69
ح ت ب نالی م ب ال قس س : 00
ت ن ، ع وادبخمت : 01
ای شکازال : 04

ت ن ج س م وماشفج ن سن قسس : 09
غثاللک م رخ ءکام : 11
اشفالارسک چ ش ی : 11
دارالماشف م حال ممرکر : 19
خن اشفحسثۂ سکرکں : 102
ج ماشفک چ ش ی : 102
ک خناشف : 105
اشفپ ی : 105
ملںاحاشف ل : 100
ح تمراشفلئیی : 100
ح تاشف ح مزی : 100
م ماشفکاجاء : 100
مرسال ی د : 109
دارالمنند : 110
ج م ن مادآبد : 110
دارالمحبالحفپکن : 111
م رخ ئکام : 116

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صلی علی نبینا صلی علی محمد　　صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
من علینا ربنا إذ بعث محمدا　　ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا
ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا　　صلوا علیہ دآئما صلوا علیہ سرمدا
صلی علی نبینا صلی علی محمدا
صلی علی نبینا صلی علی محمدا

نذرانہء عقیدت

ح رپنرغثال ع م بسنال مالی ابم عالدرال ا ل

الںقسالس الہںںررورح، اوصالبکتوفحرضال ع وارض ع

ترک ا ل غث الل م ب ندان سن اوحالی قو ال ئ م مو

ساشفجںنج ن سنرضالتل ع ، م الیحجال م ال ی

اع ح تقس م ل م ومالوءمشالل م برہن شغثال ع

ح تسش اباحالعمع ح اشفاشفمںا ل ا ل قسس الراں

اوردیتماولئ ک م عرفرح ال ع ا ج ک م سوممو م ز

ہرگ ں م اپاسکوشک پ ک ن ک سدتحصکر ں ال سں

وتلاپ م ب کصق اوروسقلفمکتمم م واؤمت

ک م تفمد آ م

فقدریگائاشفسں
آلِ رسلاحالشفالدری ک ری
ا ال باعؤدی

منقبت

ب رترکا ل غثالل م بندانسسناوحالی

قو ا ل یٰ موماشفجنںج ن سنرضالتلع

ازق: ؒ ا ل ء، کالفء، م اؓؤضالحن، فتال زالفنجمال ی مالی، حجال م ال ی، مجانم،
اع ح تقسم ل م ومالولء، مشالل م بربن شغثال ع ح تسش اباحالعمع ح اشف
اشفمںال ا ل ال نرحال ع سد ن غثالل م بندانسن م ومساشفج ن سن رضالتلع

جںم باش ولی تای
مۂح سلکںک ای تای
شسںتپپ ئکنکسور
ای تای نی تای
جںج نمدچ و م ئآسن
غمںپج آق ک ع ی تای
میوںک ق م م ر ئ نردوزخ س
کیگاشفسںحی تای
تر ح ک قکئعقسپچ
تپجت دلسکحی تای
شسںکم ح س نی م تپۂئ
سکاشف خ جغی ای

(ت ئ اشف)

دربار اشرف

از قلم: شمع شبستان غوثیت، سراج العلماء، تاج العرفاء، بحر العلوم الفقیہ حضرت مولانا العلام الشاہ ابو المحامد سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث اعظم ہند کچھوچھوی علیہ الرحمہ

کا م بار س کراشرف ٹا دربار دربراشرف
ض ک ک، ط ک ت ی انار انراشرف
زمن ب ک داؤں ک دان
ب ر م ار اشرف
م دا م کتکت کد
مدا دس گ بار اشرف
یککرازداں چ گ
ک سرمن الاسرار اشرف
اجان جان ت ق م برب خاںگاراشرف
خاک پچ اشرف ک دسر خائ ک م د کداراشرف
م ان ک ع ک م م سں
م ک عں کر اشرف

(فشپعشص100تا10)

استغاثہ بارگاہ مخدوم سمناں

شا ع ح تعم ال ال ابال دس م اظراشفاشفال نرح ال ع (کچشی)

سورا ش کی دسا اشف
ح م حور پ اک ن کسئیم

سی م وماشف غثاللدس
م شن ع اور چ ک بر م
ص ح جد و س س چ روش ض
گ غ ک تں چ م م ن

سورا ش کی دسا اشف
ح م حور پ اک ن کسئیم

ن بج ولی ص ح ع و وقر
م ن فوکا م ت درک بر
گا و ش پ تی ع ی ب شر
آپ ک ذات م س پ کدارومار

سورا ش کی دسا اشف
ح م حور پ اک ن کسئیم

نر ب ک ت طف ج ف
نتغثالری فن خاجمجن

اولء اقب س آہد تا چ
بنرا ل کدو دورس رن و م
سورا ش کی دسا اشف
ح م حور پ اک ن کسئم
ج م اشف فوغ س ک ش ر
ج م اشف ف م وم ک اکیدگر
ج م اشف احاشف ک ت ک مر
س م ت اب پ ل پ ل ونر
سورا ش کی دسا اشف
ح م حور پ اک ن کسئم
ل ل فپدازوںکفںنج
حص دنک ل ک چڑرک ص
تی چ ک پ ی ال ہ دی ن
عص اظر ک رک ل آق بم
سورا ش کی دسا اشف
ح م حور پ اک ن کسئم

تضمین

بشامام م ددی م اع ح تامام حارضفضبیی قسس الران

از قلم: مظہر غزالی، یادر گار رازی، مفتی سواداعظم رئیس المحققین، امام المتکلمین تاجدار اہلسنت شیخ
الاسلام سلطان المشائخ علامہ سید مدنی اشرف اشرفی الجیلانی اختر کچھوچھوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ

انری م کانبلل ءرخں
نزشِ کمساں، غ ت م تبں
ل م ت نیم ب ن حاں
اشرفی اے رخت آئینہء حسن خوباں
اے نظر کردہء پروردہء سہ محبوباں

م افرکزی م اشرکجں
عل ت و تری ک م رخں
دی ک ت ک تاس ئ م وشں
اشرفی اے رخت آئینہء حسن خوباں
اے نظر کردہء پروردہء سہ محبوباں

رگوپ م م خ ن رقں
پٹ رخ انر س شع ج ں
غمزۂ زں ادائ سماں
اشرفی اے رخت آئینہء حسن خوباں
اے نظر کردہء پروردہء سہ محبوباں

ل بگگگار ح رحں
آن نگرعئغال ج ں
اوررخ ر ح سغ آب رمں
اشرفی اے رخت آئینہء حسن خوباں
اے نظر کردہء پروردہء سہ محبوباں

تاس،ںزک ج پک عفں
تادر،آکجںخ ن دوراں
تاپ، ج کزمں ر اسں
اشرفی اے رخت آئینہء حسن خوباں
اے نظر کردہء پروردہء سہ محبوباں

تاہط ماک دل ق جں
ت ظ پ آئبمحاں
کںںپبلاٹا ب تکزبں
اشرفی اے رخت آئینہء حسن خوباں
اے نظر کردہء پروردہء سہ محبوباں

تی ت ن اخ آش بں
کاخ ن آرا نت رناں
دیخدشرضب گ افں
اشرفی اے رخت آئینہء حسن خوباں
اے نظر کردہء پروردہء سہ محبوباں

(تجلیات سخن)

الحمدلله حمدا كثيرا دائما ابدا كما اثنى على نفسه و اشرف الصلواة والسلام على حبيبه سيدنا

و شفيعنا محمد وعلى اله واهل بيته و اصحابه واتباعه واولياء امته اجمعين

قال الاشرف العلم بيضاء زهراء وسائر الفنون ذرارها

فمہغ ثالل م بنلدانساشفج ن سنقس الران ن ع آفبروش اورتم
اس کذر

غ ث الل م بنلدان م وم سسن اوحالی قو ا ل ٰئ م اشفج ن ج نںں

جں گ سنںرب قسس ال ن ع وروحن ش کمل ن ستستستی ی

ک م اد ع اورتب ب ت آپچربسچر م چردن کس م م خن ت ع م

ت ی ل ئ پنبسکع م ستیقأتکستقآنکی ح کست م 16دن م ی

کلحصکت ج سش ی ستسلکپنکت ع اسخبکستبنفمتکب

ب عسءسکع ع کجتت آپبر سلکع م عمعمنوب غ و م لو م ل

ت وفوح ی لواصج عمعسفزغ ئ دسر ف اسقاسپبنھگ فحی

م ح ت م بنلدان ن ح تسنہمعمع الیفقسس الرانسم معظم م د ح ی

حصکاورمماسری م ح تسنہن الیکئقسس الران کحصحاد س د

ح ی ح تکم ت اور ح تببم ح س د ح ی حصک ج کببفح م ث س

سحی حصمتاور ح تسنہاحح نسب ح تکد ح ی حص ئ

ح تمل ع ال ی شن جاسذعءزنمت اور عم م کلرکتفمت ک

ح ترسلالصال ع وس ن فمہکدی اسمم م شوعصی م ا یعلم ی ا م

م پا گ اسکوجدسرواجاکردی اسمم گاورا جںکاسادورر گ

عسءن مافاسح ی ک،

پصی ی م ح تسنعب ع ال نقسس ک م داولصیکجن.....

دوسیصی م ح تسنامہمشف م قسس .....

تیصی م ح تسنملنابالسحابشی قسس .....

چتصی م ح تسنابببط بقئیقسس .....

پنیصی م حلاسم ح تسنامہمم بم غلال قسس .....

چ م ح تسنامہفالیرازیم بعلالازیقسس اور

سںصی م ح ت م بندانسنساشفج ن سنقسلاروضت

(حال: ص ئی اشف ح اول ص115)

آپ ت اسزمن ک ج عءوصفءست آپ ک م صی م ج ش ن
آت و ع وف ک لظساپاپ مم پب درج ر ک ت آپ ت اپ م صیس
باگات و س ع روحن ع ر ک ک بجود آپ ب ح ادب واح ام ک ت ت اور آپ ک
ف ک ت ب ک ت ت ان ک اسئی گام ی :

صبرسل ح تابالضببرت یرضالع

ح تابالضببرترضالع ک م کجت ک آپ ح رنکی ک
صب اورآپ ن اب اراسبرگ رس ل س فحصکاورپاساآگ پ ی ج ال رعء
صفءن آپ س ک ف ک " ح تابالضالو فرتببرضال ع ریس پلکش
یہہڈاضفوزآبد) وسن(م ر ت آپرسل کزمن م پا ئوار وسن
سعبجکرسلخاکزیرتس م ف ئ اورآ ن ت کدعکبک س تی
آٹسسلعپئی" (حال: م ۃالسار ص656)

تری م خ چنوٹ دی گ ل اسوق باس خ م اس م ک تی
اس ن ئ ج کازلسسر ستان م ای ببرت ی ب ت آپپ وسن

ج ں ن پ اسامختا ﷺ ن ح ت م   کزیرتس م ف کدیاسمقلک ج

ک ل ب م ﷺ جارعبوع   ن طیعکعدکجچس ب سلتزن ر

آپکعشی م ا خ ف   م م رخ ن تیآٹسسلوارچس ب سل ل

ج کص ح قمسوارویدمر خ اسمن ک وتاری م اسکذکک   اورعم ابح

ع ن ن ج اول"کبالصفبم افال ب" م ہہرت   یکحلتزیہ ت س ل

ج س م م ت   کہہرت   ی ن چس ب سلکع م انلفمہ

605   ی م م دبہہرت   ی ن خداپاولک ی حلتواران ک"معجزۂ شق

القمر"ک م   کن، وسنسبدعبجنوار م فاسم ںبنک   فضاد ی صح

الیصینانتک م ل   اورعمشالیبعال ح صنح ن ن ک   ک

انںن قض م س020 ی م سکقضنرالیبنکت   ک م   ج بگار

ح ب م ن ذکک   ک م کسھاںبست ج م اپچاورہپکست ب ترت

خاسنس   وسنگاوری م مپٹاجاںیاعترتﷺ قف م شروع پا ا

دریفکت م م   اکوعترہہترک   و ںای ب بادر خ ت ج کسئ م بت

لگآرامہستج   اسدر خ ک ن گتدیکب سلگاسدر خ ک ن ج

باسغل م ادخ   ئ کدیلگں ن ج دی ج   در خ ک ن بگای

بیسزن در خ کشخں م ل ئدی یدرہفکک ن پ م م   اکسا م ہہرت

ج ں ن رس ل مب   کزیرتک   ح ر   ن ان ک ل چمتطیعکع

دعک سی ک   ن اںسکککزن تاروتک   اسشکزنبنسکحلتس

تای م دبرگن اسزن کتارازن م ب سروئبی ئتت ج اسزن

کم کلکتہہترن ادار   ئ ج طحمغہطئکبروئک پ س ن   پاسشن

ہہترکچ ککلاوران کن سپام لککک ج ہرگارلگخاسنسآئ   ان

م اک شفٔ اوراولد پ   ان ک خا   ک آپ ان س   م بن ک ی ک آپ ن

کن رس ل خا   کدی اور ح ر   ن آپ س کفمۂ ت ی س کس ہہرت   ی ن

ٹ ی س ن ب ی اوراس طح زبن فرس م ت ک ج ش ک م ب ت

بابا رتن ہندی رضی اللہ عنہ **کا بیان**: م اپ ہپ ک س ت ک مِل ت رت ح ز

ل ک گ اس وق م جانت ج م ک ق ی پن ب پڑوں کا د م م دی ک ک ت

ہرش س پن ب ر   و   ا ی ص ح ا د   کدی ک ج کن ی   م ترن ک قرگ مگ ں ت

اور د ا م ک م اوں ن ک چ ا ر ت

ہرش ک پن ج ان ک او ں ن ک درم ں زور س ر ب ر ت اس س ص ح ا د   کخ ف ت ک

ن ک او ں ن ت س ن ں ی ح ل د ی ک م م ل   اا ور ی اس ا ل ک م ان ص ح ا د   ک

ج ن پ ا پ پ س ا ر ک ک او ر س ب ک ط ک ک ان ک او ں ن ت پ دۂ ج م او ں ن ک

ن د ی پ گ ۃ م ی ط ف ب ش د ی اور ت م ت ف مۂ:

بارک اللہ فی عمرک   ال ج ج ل آپ ک ع م ب ک د ـ

بارک اللہ فی عمرک   ال ج ج ل آپ ک ع م ب ک د ـ

بارک اللہ فی عمرک   ال ج ج ل آپ ک ع م ب ک د ـ

م و   ان ص ح ا د ک چ ڑ ک چ گ اور م ل ت ر ت ف و خ ک ک ا پ و ط و ا پ آ گ

ظہور معجزئہ شق القمر: وط و ا پ آ ن ک ب ا پ ک ر و ہ ر م م   گ اس پ

ک ز م ن گ ر گ ک ح ز ک ا ل   ن ر   ا ی ش م ا پ ص م ب   ا ت ک چ د   ی ر ا ت ک چ ن

آ س ن پ چ ر ت د ﷺ ک د ی   ں ک چ ن ک د و ٹ   گ ا ی ٹ ا م ق م غ و ب   گ ا ور

ا ی م ب م   ا ی س ع ت ت ۃ ر ی ر   ر ا ت ا ن ھ ی م م   ت ت   و ٹ ا ج م ق م

غ و ب   ا ت ا و ر ٹ ا ج م ب م غ و ب   ا ت ا و ر و   م ب س ن ت آ س ن پ آ ک م گ چ ن ا ص

ح ل م م ک م ب گ   م ا س و ق س ہ ا ح ا ن ت ا و ر ک ئ ب ا س ق   م ن آ ت ت   ت ں

کقف م عبسآیاس نبنکک م م ای ش ش ن ظرک اوردعئٰک ک

م تمعلکواسخاکطفس پ م ر ںا م ن دعئٰکتی م م د دی

ماتانءک م طککچنکح د کآسنپدوٹ جئای م ق م غوب

اورا ی م ب م اوربدونںاپاپمم سآکآسنپای جئ ج کتاسش

نبرتخاایککدکی ج مکی ک م م ئت م ن ی م قزیرت اکخد

جکاسشکزیرتکوںچن م سکسمندرسکاورکملترت ا ل کروان ا

اورم م پکاسشکپدریفکلگں ن مناوردول ک کننبی م درواز پ

پناوراجتز ط ککداخ ح ری ات م ن دیکو شوطخن م ب ا چ

نران چ ر اورریمرکسنرسم پسم م ن ج دیتاوراسس م ج

م ندی م ن پنکیو صحدا جکمناٹکسبسب تلک ج

م نآگبھکسمکتمیطفدیکت فمیاور م پنلاورفمی وعلیک السلام

ادنسنی اسوقانکپسای ط پازر ط رکتاورای ج ع اصبکگدب ئت

اورنی ت کستانکاحامکر ت یدیکم دلپای طری ئکم

آگنبھس مییحلدیکانںنفمی" م قی آ پانںنفمیکن م

مافکنمیقضیاتموت اورب نقکپاکن بدیوزنق یسک م آگ

بھاورانکستبگاورک ن م ر ط کشی ا و اپدسمرکسرط اٹکاٹ

ک م ع ی فمتتعو اسکج م ناپ تسچ چککئچرط انںن

ع ی فمئپمیطفدیکبت اشرفمیکتن م ن پن م نعضکک م

م ید ن شیک م ن ں انںنفمیکتناپپسارکک م سروںسپر

ناتراتاوراونںکچاگ ت ن پنیت یسک م نعضککا نجانخشرو

بشص پارشدفمیدا تبھ م ناپدا تبھیانںن باپ ٹبھیاور

مفککارشدفمی اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ (ﷺ) م ن اسکادا
ک ح ر ب م ور ئ ج م ر خ ن لٹ ح ر ن ت م ت فمیہرک
الفعک م آپسر خ ا م ادل ب مقتاور ب ح لشفِاسم ب م ورت
ح ت م کدعک ح تل ن ﷺافمیاسو ق ع ش ی چ سبسسکزید
اس ب م ج ل گ و م ی اولداوراولدکاولد

(بال: وپکن ب ت م ص12ت16)

ح تشابلضہہرت یرضال ع کصبککلگں ناکرک اوریثب
ک نکک شک وک تبیسستبسلبپا ئص ح ما السرانان
اکرکن اولں م م ج ل الای م ث کنمذکک ل ا ر ندی دو ت ت ںاسہت
پش ا ی ح ت شعؤالولسناوردوس غثالل م بندانسلشافج ن
سنقسس الران مہتاشف م ساشفج ن سنالنمہ ن 11وی م ب م انک
ذک آپ ل :

ج م ح تہہرت یکپسپنیو بہرگ ج ں ن صفای اوس اس
ح ت ع ال مسخقپ ج و ق ک ح تعؤالولسنکپسپنٹان اسط یو
ہطاسدکآپ فمت ک م ح تہہرتسغائ آثروعئ اسارپہی ج ہہس
آختفمن ل صوقکلاوراس م اس ی چسد خقکلجکاکہ م د سحص
ئ ت خقنماکہیسحصکتاورای مبچ لیں پ م جکل اشنکلاس
پ ل ت ڈھامسط م ا م طرسلال ی شنرسلال م سای ج کل
ٹای ک(ک(دنانسپتاس ج الت وبرٹجتبراس دروی پفمہ اورسلئ
ک ح ل ئ ک م ا پ ص س ج ا ک ا مہ ق ی م س آخت ک ب اعلفق س
ع الزاقکسدک (حال: مہتاشف)

بحل ح تببرت یرضالعکصب م اسکلدئمح ن

★ ببرت یرضالع ک ق ج 600 ی م ظ ااوردعۂلیئبی ک
ﷺاتال ن م مکر

★ ح تعم م دالیشازیص ح قمس ن انکصب م شرکت

★ ح تشعؤلاولسنقسس الران اورغثالل م بندانساشفج ن
سنقسس الرانۂانسمقتکن اوراسپفکن اور ن اخقۂان
سثبکن ق ل ئ اشف م مکر (بال: طیاللگص19)

غثکاعتیمتپفئ نکعو ح ت م ومساشفج ن سنقسس
ن حتسنابالالضحججرتاب یرضالعجصبرسل ت، کدیاروقمت
ۂشفبحصفمۂ چن ح ت م ومسنرضال ع ۂارشد :"وقکایہملز م
حتابالضرترسدازاناعل ئ ایںیب م ش ی ن خقایفﷺرترت م
سواداﷺرترسلال (حال: ل ئ اشف ج1ص201)
اسلظسآپتب ئ اوراسامزیوص ن ح ت م ومقسس کذاتگام
ۂ ج مئکدرمن م داوربملبدۂ ح حتججرترضالع ک ی حلتک
لمح :

(عماب ج ع نککب "الصبف م فالب" ص115ت121 اوراجلکل،
اذۂرابارص10،16)

وصلمرک: م رواۂتکطقآپۂوصلستیصی م ی ازارمرک
ق یہۂڈاضفوزآبد وسن م مجخئ

ابالرمعؤالولسنقس

ح تشعؤالولسنقس 026 یاپوق ک ع روحنبرگگر

آپص ح ک وکامتتاورط ی م ب ممرک ت س موماشفج ن سنک

م صی م پہم ح تعؤالیسنکآت   ک ن آپ ن را سککابائ ت ا   س

حصک آپ ب م   شکخ م م حضر کتتاوراناکفضوبکتس   م

تت ح تشکہمج م ک م درج   اسطح   احبمباحبمبہناور

ل رکالیباالرمعؤالولسن   آپکولدتم ذیاح 659   یکشسن م

ئآپکوال م مکہم م شفالیتجح م ک ا ی ا   ع   پفئت ما

السارک   م   ل   "آپ چ م ل م فمت ت ک م   چ م جلالیسن

بدش و قارغنخنکوزیتاور م   ممںقضضءالیتم م کقضاوربدش

وق ک م ئ ت (حال: ماۃالسراصن 941)

شعؤالولعمظ یوبطپ م ع ررکت اسکثتآپکبپیت ن

ج ح م معمومرفکخان   م ک م انک د ادتسبنکگگ   ی م عم

وفنپ ل گ ت ل ان م ساکہپ   م   کایانک ک خنں م باب

مجد ں "آپک م د مومم ر ت ت   الرال م م آپکت ن ک د ادتس

تبئگ   ج م سصفیککبپئجت   :

- م اقوم اہملفط (عب م) سا م قآنککیک ب سرتںک ت صفن
  انازمکگ
- ساللفاطارسکا الل(فرس) م رسل
- صا لا ش(فرس)یبای م رسل ،
- شرعابابالسوماتاالن(عب)اسکمضع ح اورکم

- مظالظوالظالض (عب) واقغیخپ
- ال و ال اخاوخ (فرس) تفپ
- چ م ل (فرس) مظتک م مع
- عو الث

حتساشفج ن سنص ن 119 م ڈاکوح اشف ک چ ی ن آپکستس کہںکذکک ج م م رسئبشم ل حتکہت ک انں ن آپک م رکب "عو الث" کذک ن ک حلن م ک تف م اسکحا ل مجد اورص ح ما السران ٹاپکب م جباسکذککاسکعرات ن ک ج سپ چ کیکبتفپ ل گ اوراس م ب اسرورمزبن ک گ

وصلمرک: ح ت شعؤالول سن ع ارل ح ن س(00)سل ک ع پہئ 11 ر ج ال ج 026 یکسن م وصلفمہ آپکزارمرکسن ک ق بجاحارصف آبہد م ق الوٹدجلالیعال بکاحط م صفآبہدا ی ق جسنس 15 کم

شکلالی ع الزاقکش قسس

غثالل م بندانساشفج ن سنقسس ن الران اباء م ج بہرگں سفحصکان م ح تشکلالی ع الزاقکشقسس الرانکنہمبآٹ آپ ص ح عوف اورص ح ممط ی تعمظ یوہط م دسسرک ت آپش ط ی ب تاورر ئش ی ب یوجتکتنعموم فآپکخ م م حض

کآپک ع وروحن چ فساپپسبتت ساشفجن سنباپ ع
پسبنک ل آپکخ م کشن م حض ئ
س م وم اشفج ن سنفمت : ج کشن م ح ت ع الزاقک شف
زم م س م ف اتاسوقکطلنط ی آپسفصال پھر ت م بدرس
م ش ی گکبک م م چتاسفکستخصع ی ک ب ح تشکشن
م کمپس د یافصال ک عو ا ی ج فحت م اوراصح ش اک ب آپ س
پھ" (ل ئ اشف ح دومفرسص164)
ح ت ش ع الزاقکش ع الح کحلتزنگس م دی ک خمش ن آت
اگککب م آپک رہ م ک ل تآپک ا م، مییاورخءکحال ل س
ل

خاجصرالیاہال س م ب ںازگ درازقسس

ح تخاجگ دزاربںازرح ال ع س چ ک ج الربرگگر آپ
کںمس م ا ل ی اہال اورالہت ب ںازگ دراز آپکولدتہسدت4 ر ج
ال ج 010 ی صک وق د م ئ آپک والم مکںمسیس ح اراج ل ا ر
اراقلتجن ی م اورپ گرانںت
آپ ن اباىٔ ت وال م مسحصک11لسک ع م قآنکک ی ح کاوردول آہد
ک م م مابسئآپکاست م قضع ا ل ر بقضرکالیشیکی،ملں
امم ا مت جالیبدراورسش ی الی کںہلی وغ شم
ہطعمک ح لک ل آپ ن سنام ئ ح تظمالیاولم با رحال
ع ک خ ح تش ن الی م دروشچاغد ی کدسمرک پ ب ک آپکاپش

سہی ع وت م ت آپ وق ا نک خ م م حضر ت آپ گ دراز ک ل
س م ر اسکوج ت ہنک ت ئش م ح ت ع ا ل م ثد ای پا م رکب
اخرال ا ر م ل :

ش ن ال ی م دچاغ د ی ک ک پ ل ج ط ح دوس م یاٹ ت ت اس ط ح س م
باٹ ئ ک ت ت ا ی دن آپ اپ ش ک پ ل اٹ ن ل ٹاس ا ک ا ی ح م آپ ک ہ ل ال
گ اگ ک ل ٹ دی ل اور اس س ش ک ک خ ط ک خ م س ک ت ت اس ل ش ک ع و
م م اس ک س چ ر ب فص ط ک ج ن ک ب ج ش ک م م ات و ب خ ش
ئ اور آپ ک اس س م اور پ ع ت پ آ ف ی ک اور ی ش پ ھ:

ت ج: ج ک ئ س گ دراز ک م ی گ ب اال م ش ن ک و پ ع ش گ

(حال:اخرال ا رص115)

ک س ر اور ی ں س پ چ ک گ دراز ک ل آپ ک پ و م ش ک ع ک د آپ
ح ت ر وش چاغ د ی ک ک خ ء م ت اور ش آپ پ ب ی ش فم ت ت ح ت س م
گ دراز ح ال ع ع ورح ن م ا ع م م رک ت آپ ک ک ت ن اس ک م ب ل ث ت
ت ک خ اج گ دراز ک م ن ا پ ک ب ک ص69پ آپ ک ک ک ف س ل گ ج
ی :

- م ب ق س ک(ت ق آن)
- ت ث ن ب ی ک ک ف
- ح ا ش ک ف
- ش ح م ق ر(درس ک)
- ت ج م ق ر
- م ر ف ش ح م ر ف

- تجعراف
- شحترف
- شحفصال
- شحآدابالیی(فرسوعب)
- شح تات ع ال
- وجدالرف
- ور ئ بر
- ش ن (ج م سکبںکحال)
- شحرسلقی(فرس)
- بنبد
- اس م ش ی بطی ح
- خ ئالسالوف ع نم
- ا وتالجد(عب)
- ورالسار(عب)
- عوجونل
- ور ئ
- س ا ل اوڈبو
- س ال
- اوراںدم
- شحفاک(فرس)
- شح ق امل(عبوفرس)

- ★ شح ق حطۂ
- ★ فئ خ ئراشی
- ★ حاشقتال ب
- ★ ع حائلن
- ★ آدابسک
- ★ اشر م ن ح
- ★ ماق
- ★ م فربال ت
- ★ کبالسء
- ★ ضبالمل
- ★ خ فۂم

اسکب و ل یتم ک آپکمجدپئگ انکعو آپکمہتو
مظت جآپکمیین جک (حال:خاجا گدرازص69)
غثالل م بندانسواحلای ساشفج ن سنقسس الرانفۂت
تکج ح تسم گدازکمز م س م ف ئحٔئومرفکو م ارجآپ
سحص ئدوس م ئس ن حص ئسنالکقیجہرکتایعصت
دک م آپسمقتر اوردومتاسدۂر م عئقفپن
(حال: ل ئ اشف ح اول561)

ل ئ اشف م کس اشفج ن سن ح ت گدرازس ل دومت ل
شی گ اورآپک ص س ب فحصک ل م قمک دورانآپ وق ح ت
گدرازکخ م م حضر ت اورآپکمظتعلس م تت

ص ئ اشف م کغثالل م بنادناساشفج ن سنقسس نارال
ن فمہکس م ج ش ل م گر ااسدہرکادا م ک م ا ی عنگش ن ت
دہرفکنک س م م اکستس(000)بسکعرک اگزہنکعئوغائک
ہتکتتانکپسایانٹت اسک ع خصتک ج اس ن کاپطفکت
لگںکن سغئ جتت اور ج ن اسکہ کطفکتآپظ جت وق
ر خ ا یشکت فہمئک ج کشحوبنسہ

(ص ئ اشف ح اولص150)

اسدہر م ج ع ہغتاور ن کرہںبتت آپکولی ل ب پ ت
آپاسکلکفہمکتت

وصلمرک: ح تخاجگ دارزرح ال ع ن پرہزنگاسمکب واشا ع
م گاریآپکس م ع ا کآگروشت یوج تک ج ن بآپس ف
حصکاسکس م فو ع ا کخیبگسرہزنگعوم م فکخانلن کب
16ذی ا ل 115 ی با ی سپنسلچرم رہ دنبوزدوشہ ق صاسادارفن سعل
جویانکطفکچفہم زارمرکدک ل م مجخئ

ح تامہ ع الیف ی قسس

ح تامہ ع الیفقسس نارال (مف055) ج ال ر م ث فاوراع وف
م اپثن ن رک تکن آپعمظ یوہطکجم تاسل غثالل م بنادن
س اشفج ن سن ن آپ س ع وروحن فضوبکت حص ک آپکنہم ع ال ی
ابسدت ع الیتآپکوال م مکنہمسیفتآپ ی کر اول ت ل ح م
ش ی م زہد قمفہمآپ م شفاور م ہقدریت

عمظ یوہط م اپزمن ک عوفء م مزدرج رک ت آپ ک ن ارادت

چواسںس ح تغثال ع سحص (حلا:خیلالصءص110)

اما ع الیفقس النجمکلت ش ت آپ ن ب سبرگںس ف

حصکاور م دمہتاورسںسآپکاجزتوخف ت آپ ح ت ن الیروش

چاغد یک ع ت آپکعوفاورط ی م بمہکدی ئوقک ع

برگںن آپکس م زانئ ل ط کاور ع وروحنفضبکتحصکانسں

م ح ت م وسجلالیجںجںن گ بریاورغثالل م بندانسن م وم

ساشفج ن جںجںن گ سن ج ش زط ی شم ساشفج ن سنالمہن

نظ یہطدونںعم م ک ک

ح ت ملںابل ئ ظمالی ی ع الح مظتس م وماشفج ن سن

(ل ئ اشف) م یعرت ن کت ج م س م وماشفج ن سنن ح تامہ

ع الیفک ل چ البتاسلک و ل "شربن، بزلنفصانامہع الیف

اکہمیرح ال ع" (حلا:ل ئ اشففرسص10)

مبتاشف م کساشفج ن سنسمہن ت فک م رکب"عراف

الفر" ح تامہع الیفسپھ (مبتاشفص11)

ج پھن وال ح تامہع الیف ںوارپ ھ وال ترکا ل سن م وم

ساشفج ن سن ںتپ ع وفککناناز سک کانںن پھد گاورکک

انںنانس سن گ ںًعموم رفکدریبد اورس م وماشفج ن سن

ن ا ن اپس م م ظکل گ آپص ح ت ن برگت م مضعتپآپ ن

بیبا ک ت فمئ ج کنمی :

★ ترہیما الںوع اللہفان م فحادثالمہن

- روضالی ح فحۃالا ل
- وردا ہلطی مفبنفئ الاآنا ل
- نالسللف ا مئال فواصبالمۃالل
- ا ما لخفم ق شع الدر

م کان ک کعو بآپ نکب ت فمۃئ ں (والاعوروسلاع)

وصلمرک: ح تاۃمع الیفقسس الرانکسوصل م اخ ف ک ن 060 یکن 064 یل ص ح م ا السرانسوصلل ن و فمۃت "امۃع الیفکسوفۃت ن س ن گرا ل کب"ترۃیما النل" م انںن 050 ی ت کواقت ل وفۃت ن س ن گرا م م ن کاسک بک سلزن ر ل س الرفکعترس م م ۃ کآپش ن الیچاغد یک ع ت کنآپ ن ح ت م ومسجلالیجنںجں گ رحلا ع ک ح ت ن الیروش چاغد یک خ م م ب ت ج ش ن الیروشچاغد یکسوفۃت 050 ی س کاسکقی ککئس لا ص ح خیالصاءن آپکسوصل 055 ی ل و ل امۃص ح ن 11 جدیالخ 055-6 ی م وفۃتپئ م قم معظم م ح ت ف بعضرحلا ع ک زارک م

سخاجبؤالی ن قسس

غثالل م ب ناداںقو لا ئل سنس اوحالی م اشفج ن سنک مصی م ح تخاجسبؤالی ن رحلا ع کنمنماسبآتۃ ا ط ی م آپکمم ب ب آپامۃط ی اوراپئ اولءت آپکوروحن ع وبرگکت

کت ئ ک ک ف ک"آپ کاسگام م ب م الری آپکشراکباولء م ت آپ

ب ب اورعلشنبرگت اور ن قطرکت)ب ص ح ت فت ت(تڑیس

جتسکنسکمتعیپپندی ت ج قرری ضوم اتتکاورتیآپ ع

م لئ کبرگسکسم آئ " (حال:ما السراص960)

"آپکپائ 011 ی 11- 1210 ع ی م قعرفں(براس ت م دور(

ئآپکپائ س پ ح تببم سرح ال ع ن آپکولدتکبرتدیت

ولدتکت روزآپکجا م ح تببسسکخ م م ل گ ح تبب ن آپک

اپفزنی م قلفمہاوراپ خ ا ع م سکںسآپکتب کبر م ع ل"

(حال:تک ن ی خ ی ص466)

آپصا ل ست ار سک م آپکتب م سکںنک ل ح م آپ

اوی کن آپ ن ح تخاجاع اللڈ اونکرور ن س فحصکت

ح تخاجاؤبالی ن ن م د مہتسروحنفضوبکتحصکسا ک

بآپسلس ن یکای ج الربرگ ح تملںعرفدیکانکخ م م ر اور

انسفحصک

آپ ن ملںعرفکعو شمتکنکخ م م ب چہ گار اورفحص

کساشفج ن سنک خ ح تملںم ظالی ی اپکبل ئ اشف م ی

عرت ن کت و ل "شمتکنکمئ م اور ح تخاجاحیی ک

خنانس خاجابؤالی ن ن بآپسسک م ئ حصکتشمکنب

تخاجابؤالی ن کاپدساںبک تخاجابؤالیت مہشک خ م م ر "

آپ ن ح ت خ اتسب ف حصکی ب م ئتکس ت آپبر سل

ح ت خ اتکخ م م ر بطفضوبکتحصک آپ ن ح تاوی قنرض

ال ع کروح ن سب فپہاور ح ت خ ع ال مسبمقتکانتمبرگندیک
ص اورروحن ف ن ح تخاجبؤالی ن کروح ن و م فکایخیبدہکج ب
آپک ص م باور ج پ آپ ن نکمڈالیداسکمبدہ
قو ا لئساشف ج ن سن ن ح ت بؤالی ن سمقتکاورانسروحن
اسد بکاسمقت م ح تتسع الازاقنرا ل بآپکستتچناسمقت
کذککت ساشفج ن سنفمت :
ج وق م ع الازاقک ح تتبؤالی ن کپس ل گآپ نانکالتعوئتس
نازا (حال: ل ئ اشف ح اولص66)

وصلمرک: اس م م کا ح تبؤالی ن رح ال ع ساشفج ن
سنسہنک مصی م ستاورآپ ن ان سب فحصک ص ح ما السار
ح تتبؤالی ن کوصلک م ل ک"آپکع چ سلتآپکوصلام
ترک ع شدوشہ ربالول091 کی ا اورقعرفن م دف ئآپکزار
ولیہورالکلگںکقحجت

ح ت موسجلالیبریقسس

ح تسجلالیبریرح ال ع (مف015 ی) ال وف" مومجنجں
گ "کہاولء م س ت رہضوم اوربرگندیس ک ف م اپ مصی م
م مدمرکت کن ک د اد م برگںسفحصکتآپکنہمسجلالیبری
اور ل مومجنں ص ح خیلاصء ل ک"سجلالیک ل شش تآپ
ک ب سخ ب ت ج :

مسخ ش ی ال

ابالکت　　　　　　اباح

مبرگ　　　　　　موما ع

جلاک　　　　　　ع ال

(حال:خیالصءص62)

ل سس م ر ل "موجںں" ردی ک "موجں" ششفالیی ٰ

م ی قسس کک جت وصۂ موجں ب م ر ک ح ت م موجں ششف

الی حا ی م قسس الراں ک روح پ وازکں وکق تت آپ ن اپ اصب س

وص ک ت ک خ دارکئ م جز ک ن زن پھئ ک ں ک ا ی س صا ل ، ترک

س ، تس ی قات ک حفر، چد ع م ک ع ل ع ی ںآ ئگو م ی نزجز پھ ئگ

آپ ک اصب ب ج وص ت و ت ک ک ح ت م بن داں ک ان رکر ت

ج ت خ ئی ت ح ت ش چل ئخ دم ح ت م ومو ا ل ش ف ا ل ی ی ٰ م ی ش س ہ

ا ش ک واس ن ا دھ س ح ت م بن ادا ن ت ی ل ر ت ش چل ئ اپ ن رف اس ہ ط

س پن گ پ چ آپ س ؟ ح ت ن ع ج ی س ف م ہ ی ک ں

اس ط ح ج ج ں ں ح ت م ومو ا ل ن ف م ئ ت س آپ م ہ ئ گ ح ت

م ب ن ادا ن ک آگ ک اور خ د پ ل ج ح ت م بن ادا ن س ن س اف ج ن س ن

خ ن ع ل م پ ن ک ح ت م ومو ا ل ک خ ء او راص ب س م س ن ہ ت ق ص ح م

ب ج وص م ا م ن زج ز ک ش ار ک او ل ح ت ن ک ع ج ی ک آ خ س ن ح ت م ب

ن ادا ن ک ا م ک ل آ گ ہ ب ھ ئ　　　　　(حال: ص ئ اش ف ص 01)

ح ت م ومو ج ن ں ج ں گ ع ل ہ ع او ر ف ص ہ ت ع س گ ا ش ر ک ت

او ر ع م ظ ی و ہ ط ک ج م ت ل اس ک س ت س ت ع د ت و ر ی ض م و ق م ر ل

تاورن ی ماض ش کہل ت ح ی کعلاوراصلوفوع م م ح تفیٰ
بامہا ع ح تسناہ ح ن نبثبالفرضالع کفکطقدی ت
غثالل م ب ندان م موم سن ساشف ج ن سن ن آپ سروحنفضو
بکتحص ک ج کذک ل ئ اشف م ح ت ملںابا ل ئ مظالی ی س
اشفج ن سنکیارشد ن کت :
ح تقو ا لیٰفمتتکسداتبریک س ن ب ب اورمخی م ج خارق
عدات اورعموحئ ح ت مومجنں س ظ ئ ک س ن آپ م ال ئ اور
م رالائ ج ک ح تقو ا لیٰکس م مومجنںجں گ ہآپکسک
ذکآجتتآپپ ع ک طری جتکتکس م ال ئ اگچ ب ساکبی
ومئوق ن م مشیکمسعمومورفاورفضوبکتحصک ل موم
جنںککئمل ن روئ ز م پکئایدروی ن ج کمز م م و نپن
ں اورانساسد نک ج ک چ م رسںکذکک ح ت مومجنںکاول
ن وخفاپ آہؤاجادسم ج ک س س ح ت ع ع الضانت چ
(حال:ل ئ اشف ح اولص290)
ح ت مومسجلالیجنںجں گ وخفواجزتای سچ ل سزید
عئراساورصحنارشدمئسحصت ج کخقاور س ک ن ع فں ع فں
کواسرسلاکم تپ ن آپ ن ع ش ی وط ی و ح وعتف
انسحصک
ل ئ اشف م ک ج ت مومجنں ن بشربگںساجزتوخفاوردی
فضوبکتحص ک پآپ ن اناتمبرگںکہمگکساشف ج ن سنکبئاور
انسحصکد و تمروحن ن عفمئاس ل ساشفج ن سنبی ع تو م

س ح ت م ومجنںجں گ کذککت ت اوراںکذککتو ق آپ ع ک
طری جتت

ح ت م ومجنںجں گ ک خ ئی کام

ح ت م ومجنںجں گ ک چ م رخ ئی کامکاسئی گامی :

سعؤالیج م م ظسشفالی

س م وماشفج ن سںسمں

شصرالیراجبری

ساشفالی م ی

سہہتجالیمری

سسرب م د

س م دشازی

ملںم ع ءال

ص ح خ یالصءآپکس ح کہر م ل "ک ج سجلالی ن برا
سسںکارادکتپ ن اشفت ی ل گ ح ت ع شخاکمالوج الیک مق
مرکسفضہطحصکن ک بمین ر پ ن اوررضورسل کزہرتکو ں
سشمگاور ح تسن ع الکم م کتبتکمرور و ںسمین ر آئ
میکسداتکامن آپکس ن ساکرکاوراص ل س ن ک ط ک ب ج ا
اآخ ی ی اکاسس م سالبار کروضپانارپجکاسرکجئچنس
جلالیسداتع م کتسروضعلپحض ئ آپعضک"ال م ع ولای"روض
رسلسآوازآئ"ولیق ع وساجکا م م وع ا ھ ب"ی آوازسکتمسدادات ن
آپکشافکگا دیاورآپکب ح ت وتقک (حال:خیالصءص64)

وصل مرک: ل ئ اشف م ک آپ 01 سل قحت م ر ک بوزچرش
ع الض10ذئاح 015 ئغوبآقبکوق انلفمۂ
(حال: ل ئ اشف ح اول ص610)
اسطحعو م فوط ی ۂآفبغوبآفبکوق غوب گ ل اسکپنر
شئ آجبا ع وعۂں ک قبۂنرکر

ح ت خ اتر قسس

ح ت خ اترح ال ع(مۂف 011) یبساشفج ن سنکم صی م
تآپ صح ش ی وط ی تاورلی کاع مم پۂئت آپ خارزم م پا ئ
اور ج ال مرئس ک فکآپۂنم " خ آت" ب مرخ ن ح آقبل
ص ح خی الصء ن ل کآپ "آقعزعن" مۂب م ر ئ ریت س کاس
ب آقکوجس آپ کۂمکست "آق" ل جت (واال عروسال ع) ل اک ن آق
کبئ "آت" ل

آپۂ س ب تۂکن ک ع ۂرگ ح تخاجاحی قسس س ججخد
مکرو ن اور م فضوبۂت تاک م ئط ی کپوم شت ح تخاجاحی ی
رح ال ع ح ت م وم ساشفج ن سنک ح ۂۂت ح ت خ اترۂآ ع ال پآ
کم یو خ ت
ح تخاجاحی قسس الران کچرخ ء ب م رت:
ح ت م رامۂبخاجاۂبارسنقسس
ح تسآتقسس
ح تسنقسس

ح تش خ آتقسس

کنات ع کنحور ک ک ع ال احرتآ خ ش ت ح ک م فشاتہم سناب ن ع ال حر ن یلاؤبت ح ک سجہلسسا زاناک ع روحن تع ی نروا ت کرت ع یہسنانس ن جفشاسک جوی ک ف ک کصحفسنادخکیفصن ن نس ن جفشاس تتککذکناسماحاو م خکتآ خ بک ل ارنقازالع ت ح قفلا وق حب خ رواى م نزفپاب فشاس ن ی یلامظم ئ ل اباںلمت ح کواک م سناراوگ ک ل م ج ن سنکیقل ن کت :

اسکبسعالزاقک خ آتکپس ل گانںن بظ یوہطعیتوالتس ازان (حال: ل ئ اشف ح دوم ص210)

وصل مرک: ح ت خ آترحالع کوصل511 یی 111 ی م ا ل ان دونں م ک کدرسقار ن دیجسکن اس م م کاخ ف آپکزارپانار مضہ"آق"عزعن م

ح ت م س عمدانقسس

کشاسارربناو ق رازئ نن ح ت م س عمدانقسس کشرانابکی ط ی م ت ج ع ظ یوہطدونںک ج م ت آپکولدتمدان م ئاس ل آپکنمکسمتمدان ل جت ترىولدت1214 ع ی ج صفاىکب م درج ب ک م صف م حلت م آپکوالگامکنمسشبالیتجمدان م ا ى ب ع پفئت ل اسکبوجدن ی ن اور م اننت

م س عمدانبشبالی ب م الانعمہطوظ   یکجمگر   آپش
شفالی م دب ع الالوتنکمی   اورو شعؤلولسنکمی   اورو میش
نرالی ع ال ح ک وم ی   شاحخقنکجشللکمی

)ح ال:ل ئ اشف ل 15ص510(

آپ ن اپشکاجزتس ت م تسریدنکسکاوارای   ارچرساولءالاک
ص ح صکچرساولءالاکای   م   م دی اورسمئس ک ف ک   ج ک غث
الل م بنادانساشفج ن سنسقسلارانفمت   کسعمدان ع ظ   یو
ہطکجم تششفالی م دسانںن پچک ح   انںن مقاکوارساک
بفمہح ی   کدنکسکو   تہرانںن ندنکسکاوارای ہرآفبکطحزم ک
گدگم یفاشفانکرکب م ذر کطحگمر اورسکک ب سفئ   ح ت
سسحصکاگج ک   نہزلہ   ج ئاوارانکاسہتکیکادادا   ت   ارہلبان
کایاسنکیادانکس   )ح ال:ل ئ اشف ح اولفرس54(
ای م تسعمدان ن غثالل م بنادانساشفج ن سنسفمہ م   ن
ای   ارچرساولءالاک ص دریفکاور   ای س م ن فئ اٹنعائ م فزن
اشف! تارب ح   اسارشدسپچ   کآپ ن غثالل م بنادانساشف
ج ن سنالمنپبپرتجدیاوارا ن ورح ن سواف ح ع فمہ

★★★★★

کرم ب اسلام

س عمدانقسس الران ن پری دنکسک اوراسداورانب ک س ج ری رک
برخصآپ ن ج ع ق کاپ ب کم کہی و ش ک   آپ ک آن س ق ک ک
حلت ب اب ت   ںکک رتی پ   ئت   لگ اسمسدورت اوراج ل کانھو

م ب ر ت انکںماسمت ل کمکفوں ج ت ل ک م آججاسمن
آر و آپ ککشاوربخمتکن اگچ ک م ب سر برگندی ن ب
فمئ ل اس س م اوت م س عمدان قسس اللرانک حص کنمر خ ک
طقباسمکغضس ک م ادخ ن وال پبرگ

ح تس عمدان ب کستستتیک س بجریرکآپ ن م دکب
ت فمئ ل انک د ادک م ن کجس کک کنان ت ن م اور
آپکتن ج ب م ر و ی :

- اسرارالقوظ شحاسءال
- شحفصال،
- شح ق خیفرض

وصلمرک: آپکوصلک م ص ح ما السرافمت کآپزیرتب الشفوت ک ل اورن ئ سار م 6ذیحا 016کوفتپئو ںسآپکمیی ج اطکخ ن ل گ آپکزارخ ن م قحجت

ح تش ن الولقسس

او ق اسارخ وج ح تش ن الولقسس اص ل ست آپکس ن ح تغثال ع سںشع الدرجنقسس س م ترںیاایانک طق آپک ولدت020 ی م ح م ئ آپ ن ح تامم ع الیف ی قسس اللرانک دسمرکپ ب کاورپزینانارا سکک مزلط ک انکعو ب س م ئس ک فک

ح تش ن ال لولساشفج ن سنک مصی م تاورساشفج ن

سن نا سسککتحصک ح ت ن ال لولقسس شعانذوقبرکتاور

اشر م ب اساورمزبنفمت ت اسکثتآپکیاشر جما السار م

مجد آپفمت :

ن ال دائ ی خا

ن الازال کی شجا

تج : ن ال دمہخار   ن خاکخاساج ت   ی ن عکنح

تلکص   اورص مصفای دوس   سجا ن س

آپناکشا باطرکم ح م ک

ک : آپککمکجنن پ ک   یصفما السار   م م   اسکعو ک

کب م ت کستحلتزنگواراشر ن   ل ئ اشفاوردی ک م صف م

حلتپ اککگ

ح ت مسصرجںقسس

صراولئجں ح ت م صرجںقسس اپوق ک ع ہرگگر   آپ

ک س ن ح تسںاہم ح رضال ع س م   عو فاوررحو ن م آپکمم

ب بتہدش وق سناباا   آپکبحاحامکتتاورآپکخ م م اکت ئ ب

کتتآپ   عدتوریض م م وفر   ت آپنرا ط ی طکن ل اپر

ح تش بیالیزن ش مارقسس کبہواراناکدسمرکپ ب ک

ب کواق: م سصرجں ن ساشفج ن سنسمی ںچ آپ ن فمی

تر ل ا یدوس برگ اور م اکمی ک م ا ن عبنس وسں ل آؤں

ا ک ل ساشفج ن سن ن حرک ق کپو ںس ح تبیالیزن ش مار

قسس ک ا وسنواپ ئ آپکقمکل م ت م صرجں ن ل ککل م

آپکقمبس ک ل صفاسرت م حض س ںکابا ش کمز م س م

جؤں آپکک ح ح تش مار نجاب م ل مز م اسؓ ید یکضروت ن

م وسن م کلگںکتب ک ل ہمرکگ ںان م تراب نم م خدجنر

آؤں (حال:حتساشفج ن سن ص145)

آپ ن جنر م ب کاوزینامزلسک ط ک ح ت م صرجں ن

ت س کک برشو ای کس شوعک اورب گنخاکف پنی

غثالل م ب ن داںساشفج ن سن اور م سصرجں ا ل م ب گ

وراب ت اورخ وک ب ب ت ح ت م صرجں کنم مبتاشف م خ ب م اس م

ساشفج ن سن ن ط ی کا کتبنفمئ ج س اناز ت کیدونں

ح ات ع ظ وبط ک جم ت اور ا یدوس ک بح اح امکت ت ح ت م صر

جںرح ال ع پریزنگبدی م گاری آپکوصلک م ل ئ اشفاوردی ک

م کئتک ن س ن صفحلتووقات ل

ح تخاج مہرس قسس

ح تخاج مہرسرح ال ع م اسئلنط ی اوروا ق اسار ح ت آپک

اسگا م ب م ب م دالری آپکولدت056 ی م ئ آپ ن سکک ت

ح تخاجاؤبالی ن سحصکپ ح تخاجا ن آپکاجزتوخ ف ع فمۂسا
ل آپکشرح تخاجا ن ک م رخ ء م ت

ح تخاجاؤبالی ن رح ال ع ن آپپ خ صتج فمۂاورظ یوبط
ن آپک ع فمۂ ن ک باراشدفمۂ" جام ن اورح خ ءخنانخاجان قسالاسار
سا ض کپن اورجکاسرا م ن ک سحصک اسک تسن
ج کبادارادی ملنعرفقسس ن تکسن تاسامان کقلکاوراسا خ تاخ
پنؤخاجاپرس ن ب کعجیکاوراسکقلکن ح تخاجا ن آپسفمۂک م
پسجکتو تک ل گ (حال: ح اتالسص114)
آپ م بہالت اورجآپکزہنس ن جتتو جتتآپغثالل م ب
نادناسافج ن سنک م صی م ت

وصلمرک: ح ت م پرسرح ال ع ن اپپوم شک ح سرشو ا یک
ج س شوعکاسآخیدمتجریرکآپ ن 02سلکعۂپآپکوفتمی نر م
ج اتکروزچجردیالخ111 یک ئآپکزاراپانار ج ا ل م ح تعسرض
ال ع ک زارشی ک قی (حال: ح اتالسص116)

ح تشقامالیعس ل یقسس

زار ئسبکام پائیا ی اولءوبرگندی ح تشقامالیقسس
اپوق ک م ن م م دمرکت تئوپ گری اوررریضوم م اپمل
آپ تپ آ ن ح تس ن الیروشچاغد یقسس کدسمرکپ ب کاور
انک ص م ر پوم شن خ صتجفمۂاورط ی ک ت دیاسکبسجل
الیجںجں گ کک خ م م حض ئاورکبساناک ص م ر اوراناکزی

نانرۂضوم ک ت روح ن ک ب آپکخ ف ب ع فمئ انک وع آپ ن
ب س م ئسفضوبکتحص کاوران ک ص اخ رک

ل ئ اشف م ک ح تشقامالیعسادؒی قسس ن غثالل م ب
ندانساشفج ن سنکسو ح م ذکک ت دی تاورآپ اسپپری طحکرب ت
اگچاس م ب سلگں ن ا خ فکاور کتں ج وجالپآمد ئ ل س
موماشفج ن سنسا م ک ستاس م ل پثبقمر ح تشقامالی
قسس ن ق اودھش م مکاپفزنی م ل کانکتب فمئ اورروحن مزلط
کائ آپک وصلک بی آپک ج ن ئاورس چ ک پۂ ب کبں م ی ب
ل کشقامالی ن وصلس ق ش مکم وموشسر ن ک سدکدۂتانںن
ت ط ی ک ت کائاوراجزتوخ ف ب ع فمئ

وصلمرک: شقامالیقسس کوصل ل م ااورآپکزارمرکآسن
علسکرش م قسس ک ق ی مجخئاور م فضوبکت

ح تخاجاح ق الی چ قسس

ار ئس ل پائعشر دیو م ح تخاجاح ق الی چ قسس
جمکلت ش ت اپولا ح تخاج ق الیمدود چ ک ج ن ت ع و ف
اورروحن ن م اعمم ن کہوجدنی ک الاج ش تاور ا ی س ش و م
س پ ت آ ت آپساشفج ن سنںرب ک مصی م ت انںن ل ئ
اشف م آپسمقتکذکک و ل :

ج ی ف ح تخاجمدود چ قسالس ک روض م ککزۂرتس م ف ا
اور ح ت ق ا مئخاج ق الی م ومزاد جص ح سد تانکمز م م پتدی

کو ح م بککذکجکر تاورفمتت ک ح تخاجبرگکزمن س ا ر
زمنتذکج مئ چ کخنان م تچآی

وصلمرک: ح تخاجاح ق الین 000 ی م وصلفمی

ح تسبیالزن ش مارقسس

اسگام:سبیالیاح ی اباتاب ب م ل م احزنانصفک
منس م ر ا تفاورا م فو ح آپ کعلا، ق الار، فدالفادک
مارعل، ماردوجن، ماراال ل، شالفکآپالتہ م س بصو کپو م
زن ش مارورزن ولکمنسزید شتحص

ولدتہسدت: آپ ولدتہسدت ص صدق ک و ق پ ک دن ی شالا ل م
141 ی بق156ع ی م م شمکش ح م م "جر" م ئ "ص ح علج"س
سولدتکتری ن

والمجکنم: سقضقو الی ع ح اوروال مصفس فطثنعفبب
ج س م ر آپ ح ح س ح تسبیالزن ش ماررضالتلاپ ح
و ن االظ م بنفمت : اناحلبی بدیع الدین اسمی باسی واسی حسنی حسینی جدی مصطفے سلطان
دارین محمداحمدومحمودکونین تج : م ح کر واال ن م انمبیالی مںک طف
س ح اوربپکطفس ح س نمر نن ح ت م مضطف ص الع وس ج
ت ی دوجن م کجت (بال:الابالراری)

ح تقضح الیںگریقسس الی ن اپمظت م آپش ن اس طح
ن فمہ ک آ ن ت ا ج ازاولادمہ ح ت ع اب ط ل کم ال وج واس پرآن علج
قرسع ح ابسبءالیابس ظ الیاباحاسباسم اب ساس ع ابسامہ

الئ ج صدق اب سامام السم سہقاب سامام الاری زی البی ابامام ا ل اءام
ح ابامالولء ی ح ت ق الارح تسملع ابابا ط ل کمالوج الیک
اولد م س ب بہی کمل

آپ کاول مجکش ن ی س ع ح ابسبءالیابس ظ الیابس
اح ابس م اب ساس ع اب سمام الئ ج صدقابامالسمسہقامالایرامام
زیالبیابامام ا ل اءام ح اب ماملولء ح ت ع کمالوج الیرضالتل
ج ام عیھ

وال مج کطفس آپ ن نمی :وال مج کنمنمفطثنعفطبنی
دخ س ع الابسزا ابسابمابسابلصابسابیسابسابالسابس
ع ال م اب ح تس ح ماباماال ل ح تسمام ح ا م ا و م ح ت عکم
الوج الیرضالتل ع ا ج

پائکوقکامتکظر: آپ ج شمدرسساجںت تر م ج ہر ئتروئ
انرکتہنسو من ج اٹ ج م آپپا ئ پا ت ج نزکخلبنزک
ہرگ م بس ج دی زہنح ناسیصاب ئلالالالمرسلال ( ) ح ت
ادری ح جای ص ح ک وکا م ہرگ روای فمت کآپرضالتل ع ج
اسعلگکاپقوم م لومس م ففمیتروحپکص ح للک ح ت م مضطق ص
ال ع .وس م ج اصبکروائطرخنع ح م ج افوز ئ اورس ع ح اورفط
ثنکسبکولدتکمرکدد ی غ س ت نھڈاولالھڈاولالکمد سی شیان
ہرگ لنال ن اپلحدلپان م اتک ن کلاورآپسازلقارد گ

ت تو ب: التل ج کاپبگی بہت پاروا م ب ک ل انبفمت اس ت
تو ب ک ل ب ب ن اوریانمفمت چن ج آپرضالتل ع کعچرسل

چر م اورچردنک ئ ت سص ل کسکطقوالگامن ۂ ۂ ائرحنآپکرس

بالخانکل ق ربنشوق ح تتحیمع م (شم106ف م)ی(کخ م م

پ ک اسذ م م ح اسذیاداک ابائ ت س ل ش ی ک تمعموفنس آرا

وپا ک ج آپعمرک14سلک ئ تعم ع و ن م آ پمرتتمحص چ

ت حفقانم ن ک ستستآپتمآسنکبں خ صتری،زبر،ا ن ک ب

حفوعلت (تک الامتری خ ئعب واسمص492)

ابا ل ئمل ظمالیغ ی ل ئ اشف م ل کغثالل م بنداںس

اشفج ن سنالمنقسس الرانا ی س م آپکستر اورفضوبکتحص

ک اسکذکنا ںن ل ئ اشف م ک و ل : ح تبیلاالمقلبش مارب

اوی تن ی ب م برک ت ب نذرعمم ن مۂیۂواسوی وررم سدکگجک

اسگو م نذر کککحص گ معظم کای س م دوںں ا تاوراسااسد ک

(ل ئ اشف ح دومفرسص64)

ب وخف: ظ یعمسفا غ ک بع بطک ح لک ل ح م ش ی ک ل

قمبھۂ والیکی ساجزت ط کاورعزمماورمی گ ج وطسب ن ت

م قرتنحیدلسصادیکا بیلای! ص ب ال س م تریمادوںکک

ل سگو اولءبنیبمساپانر -آپنعمکر اراکب ال سکطف

مڑدۂ 159 ی م سنالوءل ح تبنیبم عفطۂؤرشمقسس الم ن ص

ب ال س م ن صی،طۂؤری و بیساجزتوخفکتجسپرکک ح بطس

آرا وپا فمۂ تڑیمتتمشبح ک م م ر کعفنکن ںس م

و م تر ذکاوشالاوردوظ ئ اورریضتوم اتکذری ط ی و ح اور

سککم لںاورم فکاسارورمزکمۂتکطکتر   مشبح نذکدواماور
ح دمکب ت فمۂئ

سنالرف ح تسںہنی ب م رضالتل ع کانل: مشبح ن می
صدقکعںفح اورم ات ح کای ل اساورسجب عفمۂکآپ م   ذات
ا   اوردرکصتلم   م موم قر ل 161 یکسرجاپآٹیبج م قم
رکچتچد یراتکچناپپشبچننس ج کئتکنروؒ یکچت داعا اج ن
ح تسنالرفہنی بمرضالتل ع کدرز ی پدسدیاورعلوقبواقب
م ح ریکدعتنم پکدی1شنا ل 161 یطق105 ع ی م اسادرافنسعل
ہلکطفکچکگ (اناللہوانا الیہ راجعون)

ح ب الاورہرگ رس ل م حضی: مشسجائکب ح تسہیالیاح ق
الارقس اپحصماد م د ح کیدسحیدلکآہدکن ل اورای م صمم
پذکجنجںم م موم م ق گ آپایگش ن اخرفمۂکدنکتمچوںس
ق پکم ی گ پآکہطخلاور م   گاوردنوآختسم د گ تترہن ک
ا اورم اتحنک   ائ م ا یطعصگرگای راتوار ف شقکعل م
تڑیدیک ل آن ںکدری ب   ئ تکخاب م ؓمضط جنعلصال ع وآلوس
کشمرکج افوز ئاورایشیآوازکنں م گناٹکہیالیتیمادوںک
ح لکوققی آگ   گ خ ی ک م ت   ںںجنسیجلںستیرا دیر
آ ن کتدلکدن م م تںکطفنپپتوار ف شقاسووجانپچ ت چ گ
ل خ د ن س گ ش ک ک ا   شق! م ،ا   پوں!ٹ،ا   لد کت!خبتپ، آپ ن
ر اشرقکخنککطفمڑدیمسحشوع   چتفیحوزرتادا ک ج جلا ک
ؒیہؤںکفوغس ق دروںکن گتدلببپمینر کاسستچ ت چ گ و

سزم ج کہمکسا اینک دھ ک ت جت و نرانگں ج مجروبکک
ل آ ن اورﷲ آرزوم ر م بیکو م م سن ج تیوں مدی ک
اسسوجانس رن جت و گ خ ی ج مسنرکش پھپھکسری
کیئتکروشکت ابو ںک ح ریرسریئاورہیبکد ھ م ہیئشقوارفوتور جت
ر جںجں مل م دقی آر دلودمغاورورکتمحتپادبواحامکرن
غل جتر مرکہریبسدرح رصلاعوآلوسپ ح ری ت یالک
ح صلاعوآلوسکآسں ں خ ک مر تںش بگابکآت
یمہمتفوادراککملسبہلت ںشمریکجوں م ا د وںکدیت
اضابکپپد چ وسنک اچ و ادھدائ تک م بت اورو ریضاؒہب
ںقمقمپنارر ح س رن نرو ن کزم پچنسرجاورسر دسبنرک
خاتک ل ک دنراتککگی م ای پک ل بیج خل ن ر
دایانروا م ن ںدھنرمیئر ب وقس ارفشدرودوسمکنںکست
ںچلتر ا م ک ں مد مر ال کہز گ فکگمیئر
ںکایس اروںسوںپہری ت ح ت ق االرراضالتلعہرگ رسل
م ہریب دل کببکقارمر اضابشقپ ح لتکا د وںک غ ر
اسستپسنک خ چئ ئ راتاپآخیمح م داخ چ فصدقاپ
اج لککئتپ ب نکتریکر کاساث م ر ح ونرکپمصالتلوآلوس
اپنرا نکستعلمل م ظ ت اوراپدببیالی ق الارکاپادا م
رح م ڈھپ ل ق سرس مسر نجر رز آفببر مامک
حتملعکمالوجالیعں ت ہرگ رسلسحجری ت ا عاپنر
نکروح نکتبد کواررجکمبکم پسلۂ

بہبشمیال ن عاساراع فمدیتاب ک کیرا   جاس ع ںکچٹںپن ڈالس

ملئی کئیت عمٰؒیکمالوج ن روح م ی مدکسدکیدروح م یآخالمہن ن

ایمتککاباساسآسن ن ر

ن اوی س م ف ؒ:تجاراقولی ن آپاپآغشع ط م ل آپروح ن

کص فمیوار ق ک م ہرول ی ع کبہرگ رس ل م پ کدیرسلکئیتصال

تل ع وآلوسدوہر بلعاط فمکخنبت م اسم ح ت فمئواراپجلجں

آراسآپ ق وروحکزیفمکشفاو ی س مزفمیوار   وسنجنکتکفمئ

آپو ںس   وسنتی لئ اورگات م قمفمی ی س بدیکس شوع

کلکںانںکرا   ای دیئوارلکںکدائ اسمکساکب م   شوں م قمر

اور   ج رشو ای کس جریرسپآ ریضوم   کتتعدتاورریضاورتیٰ

وپ   گریکوجسآپکچ   ایںرتکجشبای ن آپکرخانرکدیل

گوی   جتتاکلگںصفآپکچ   کدیک   ںتئ   ئاورا   ایاخرک ب

رواہت م یبآی   کپآک ح وجل م نںرا   ک ج تآت ج کوجسدی وال

بارس   م گجتت   اس ل آپچ   پنبڈل ر   ت آپک م   م ج ب

آتپآک ن یاثسںتئ   کس م نبجتتآپکخ ءکد ادلکں م   ج

میییک د ادبشر   روح ن م آپکب ممکانازاسلسیجس   کابکاولء

ن آپک ص اخرکاورفحصکنا م غثاللم بندانسفاشجف ن سن

النہم،قض ح الیںگریں،ملنںسملالیہمیری، ق اودھ ح ت شہ م، ح تخاج

ساہمارغان، ح تابا ل طفہؤری،سجلالیجن م ، ح تا ج بائ،قض م د

کری،قض شبالیود ل آبہدی،سنابا   شق، ح تقضصرجں، ح ت م

غنی، ح تشہ بقج(رحالا ج)اوریدج لارہرگندیکاسئشہم

غثالل م بنادنساشفج ن سنلاۂنقسس الارانا ی س م آپ

کستر   اورفضوبۂتحصک اسۂذکانں ن ل ئ اشف م ک   و   ل   :

ح تبۂیلای ﷺﷲبش مارباوی ت ن ی ب م برک ت ب ںۂدرعمۂمن

وسویورریسدکگجکاسگو م ںۂدر   کۂکحص   گم ۂمعۂظ کای س

م   دونں   ا ت اوراساسدک   (ل ئ اشف ح دومۂفرسص64)

ح تمۂلنۂابا ل ئ مظۂلایغی ی ل ئ اشف م ای عرت ن کت

ج   سپچ   ک ح تش مار ن ساشفج ن سنۂکخقب ع فۂمۂیتاوراسا

کعو ب سروحنۂانمتبفۂمئاس ل سنساشفج ن سنانۂکبحاحام

کتت انودںح ات م ۂیب م تاسۂکانازا اسسلۂیجس   ک ج س ک

اخم پای ودس   سر خ   ر   ت ۃساشفج ن سنوار ح ت ش مارک

آ ن پنت

او ی ۂ م : قرئ!او ی ک   ؟اوراسشنکنال   ؟اسفواداراکک ل

ش سں غثالل م بنادنا ح ت س م وماشفج ن سنقسس الارانکۂرگ

م تڑیدیک ل حضیدی   آپفۂمت   کشفیلای عرقسسۂک گکقم

ازاولاءلاعوج ۂشکایںکرام ئطی وکائ   ح   اوین ںۂم کایںرارداظ

ۂپیاحجۂدزیاکایںراح ترسل پ صلاع وسدرح ع ی خدپورشم

د   باوسغ   چ ن اوی داد ای ع م مۂدوروشعلۃکااریسن اوی دول ب

رونی ب ج آی ک ی ذال ف الیۂۂمںیءوالذوا ل ا ل   (ل ئ اشف م ظت

ح ت م وماشفسنرضالتلع ل 14/اول)

ۃج: شفیلای عرقسسۂبنفۂمت   کالعوجکولں م س ک ح ات و

ج   ۂبرگندی م ئطی "اوی""ک   ان ح اتکۂظ   م ک پکضورت ن

تکنو ح ترس ل پ صال ع وآلوساپ ح ع ی م باتخدانتب

وپورشفمت   سا م ک غ ککئواس ن   ت   ج ک آپ صال ع وآلوس ن

حتاوی قنرضالتلعکتبدیتیمماو ی نی اونروشاور ع مم

کک   ںترسئ   ت   اوریدو ل س م   ت   ب ج آیکیالتلک م ص

ف   و ج چ   عفمدی   اورالتل ع ف والا   زیفمت   ح تشبی

لیاﷲبشمدارایںناوی بد انوب م بعلداشدوب عمنادارازمیماوی ورم

ازایں م ئشکندرازیط ئ کرابش

(ل ئ اشفرس ص 254/ م ع نتالبد)

تج . ح تشبیالی م بشمدارقسس باوی   ن ی   بمتوم ب

او ل   ب نادرعم جمیماس ی ر م ان س م   م آ ئ   جاسگو اولء م ندر

ککحص   ت

ق کلی م : چ ک ک ج پ چ گ م   مارک م 'سدارقم، ز م کمرککر ،

ایسرکنم ج سقکتکت

ق کاصح م : ق اسک   جعل م م ر ن حتل   زمن م اورو ب ق

اساف ع ال م   ت   (ارال ظیم مص50، ل ئ اشف)

اقبکبکسعل م ظ   ت   : ح تشاکفحتکہبتستاس م ل

ک ق ک ب سالتل مظرک   ک دائ وجدکعلکنوفدس اورام م کوجسعل

غ وشد کاوراوتدکوجسجب وشلکاور م قو م بکاورابالک وجساورولیںک

مظرک   اور ق لاقبسناسککنو تو ش   ج پسر   علکامدائ

ای ق ک تفکحک : سکرغثپکع الدرج نرضالتلع فمت

کاقبک ل سلعل اور علانا م سا تابا جاسعلکدنوآختدونںک م

ماسا مکسائ ق کک ئ ن جن (االر ظہمل مفم ق غثا ع ص 51)

تماقب ق الراکم م ت : اقبج ت س ق الراک

مموم ت ت اوریہر اقبج کمس م ذک او ق الراکم م ت اور

ابہر قطؤں م سست اق ک ی اق م ای ق اوریہن ق ی کولی

م ر ان ق ولی ک ق علی ق مارکف اقباقلپوارد ت اور

اقباقلکفتماولءپجت اوری طق ق م تر

(م السلاراردوص 921)

اب راس ح تسنسبیلالاح ق الارزن ش مارک خءکد ا د ب

زید "طتش ن"اورعمڈاکمعصا ع ککب"تک م ئع م" م تی ک

ح تزن ش مارنکفطیعپئاسل آپکمیی اورخکشرغ م "

ت کبب ذخر"تریس ط شقوصفءجنر"وغ م ح تمارپکک ب

سر خ کحلتتی ج سپچ ک سمارانئفرسں س ط ی

اسس کجریوسری ن پ ب سر عءا و مئطی ککبش ،انم

س چ کبہں ک نہم ح ذی "م ق الرف"ستا لا ر"مداںخا"ترای آئ

تف "کالس"گن م دی"رسل قظٹی "أم م دی "اخرال ا ر "ملت

ط ی "منہ الاط"تک م ئ ربس"تک م ئ قدری تبک رضی"حت اعلحمٰض رت

"الجزتاملہٹی" تری م ئ قدری"تک آبہدان" الا الفع " زکر بہلکبہں کعو ک

درج کبآجبمجد ج س س مارکی گی اوراجاکاپچ البشوش

سعلمارىجرىوسرى اس سعلسا جاولئ کامواب ب کبطح

ایسصا ل م نکاس سعلکہبس خ و م کہتکمس ن

ق الارکتفتحتومت م باب : ص ح م المومالنارشد

فمت ک ح ت بى الى ق الارکلت رد م وسن شتداردوتفت

آنبردحتومتباباس

تج : ق الارکتفتحتومت م بابوىں (م المومالن)

و چہرگ ج م احءکتفکت : ص ح أم السارشعال ح چ

فمت کمأ السارک ت کہر سلکب1065 ى م زىرت ح تپوسد

مىخاجہرگ م ال والى چ قسس سدوچر ا حت ن ارشدفمہک نت

کچرمدص ح ولى وص ح تفکدرمن ج ىد جقمق م تاپقر م م

احءزنکطحاپقم ب ئ اور تر مووںر گ

(1) م بکطفشبىالىش امررالضر ع

(1) م ق ک طفساشفج ن رضال ع

(2) شل م سسلر م دغزىرضالرضال ع

(4) اورج ب م شسمالىمہبىررضال ع

انچروںکدرمنت ا م وامہن م ر گ

(بالس الشف ج اولص 69م أ السارص 1151)

ق ال اردنکچروںگشں م گ کت : امہىف ع ال ح الوى م ابحمؒہى

ع ال ح فوىح ى م رقفمت ک القطب الغوث الفرد الجامع جعله دائرا فى الافاق الاربعة فى افق

السماء وقد ستر الله احواله عن الخاصة والعامة غيرة الحق غيرانه يرى عالما کجاهل ابله کفطن تارکا اخذا قريبا

بعیداسهلاعسراًاسناحذراوسکانته سن الاولیاءکالنقطة سن الدائرةاللتی هی سرکزهابه یقع صلاح العالم۔)الوی
الی ص 211)

ت ج : ق)مار(جغثوفدکمموماتاکجمو م ت اسکالتلدنکچروں

گشں م گ کاٹ ج آسنکچروں طفسر چلت اورالتلاسغت

داری م اس احالکخصوعمسپش رک و لع نکہوجدنخاں گ و ذی

ت ئبککفمم ت دنسبنز کبکدورسگ دردم ت ئب

تلجنپت بخف نکہوجدسسم س ت اولءالا م اسمماس ج

دائ ککمک نکاسپعلکدرسکداورمار ت

عرتزکرس ح ت سبیلاحازن ش مارراضالع کا یاجالسانعی

ترىش کآپ نآفقعلک گ فمئای،پری،امی،افیاورآسیگیکپری

دنکاکامٹپآپچجتآپخءکزاراتاورآپنمس م بدیننںآپ

ع ںکیدگر ح تلن اپغتکق م آپاحالکات ج س م فرمدی

م ک ک ؟؟؟ ل م اس"سکاصح فوزالت م ل ک م س

مارىسواب ت اورم ک وسن م شی کئایعق گجںاﷲاںپکزک

ڈیںاورانس م بنننں ں ح تسنش ی ج نیقسس ککب م ق

الرف م ل ک" ح تشحج م مارىرمءی ال ع دوواسںس م الرف ح ر

سنش بیلای مارک خ ت" م الرف صن 115 ح رسنخاجببفیلاگ

کقسس کب س مارىکاجزتوخفحصت ال اتالفع ص ن 206 کب

ستال ا رصفءبربز ّروا ق الثرتتانارافیخبر مہتش ح نتتح ب

الئ م دال ل زادال ل وغ کطلسیہترروزروشکطحعںوبں تج

ک س مارىکاجزتوخف وسن م موجتمسسعلتک مئک درمن

زمن صی م مجدپئگ   زیجکریحصکن ل ان ک کضورہلورطل
کیناشءالعوج ع م اضف گ

اخلار ا ر، گن م دی، تک الام، م آ م دی، طت ش ن، صالن ل ،
سالا ر، الالات الفع، ترى س ط شق وصفئ جنر، اصل ا ل د، بای ں قی
وجی، تیا ل، مارا ع، تک ا ل ، ملتط ی ، اج ای ع الیمں، ش ب ک
ال حت اورع کرن م، الجز اللہ، ترى مارا ع، فن اولء، ضب یال ، س
آخ، الورالفآسنال ی، حتا ترضی، تک م ئقدری بکترضی، ترى م ئقدری
، تک ع ء ، تک ابکع ئ ا   ، فئیم بارط، کتامادی، فل م دی، م ب
ال ل ، تک ا ل ا ء، حفی چ ، خ خی تف، صلی البرا، نءال ف، اشرال کت
، بذخر ، ک ا حمؤب، م ئگرکر، مبت امم رہن، م حالرارى، تک ساح ہد، فوی
م ی، تیالین، ت ع ئ ن، ساناترضی، م رف م ی، مہ ج   ی پی، ل ئ
اشف، م ج الی، سسب، شحال ل الوی مضطر، تک ع ئ ب، م فرشحربری،
عارف الرف، بالن، م آ السار، م   الئ، خاہں ک ہرات، مہت ق
ح رسا ل ء، م م س کپیش ؤرش ی ، رسلالماد، ترىپرن، ص ئ اشف، ساناہہکل
ش و غ

وصلمرک: وصلسدسن ق0جدیالول121   یکآپ ن خ دہ ج م
فمی!

ح ت خ ع ال مک مپاسنت   و م   مم اسار) م (پض   کی
خ خصم ا   م انساکر ن کسلامیعکپنلن   چ   آپ ن وصل ک
بکحلتپاکفروشڈا ل   ئ فمی، م   خ ءدنک گش م مجد   ا ی درو
ایآئگگکم   دوسںکسامنسگرن گج ب گ و ص ح این ںگاوران

کشع عوک م ننح ر نک پقرتایلگ ب گجگ امنکج بیپی گاور م وم گ گاسکفا کیگو ح پ ںگوغ ی خ ح الار کنمسمسمکجت حالار، اساربی، جلبیاور م د ک کروایکطق ایلکچ ب ارچرسچ ل خ ءومییکمجدگ م خ دیتاوراسروزا ی ارچرس ب ل مییکخفسسفازکت

(حال: م متجنا ج 11شر 10ص165)

10جدیالول121 یکآپنوصلفمی انلوانالراج ن

سنابا شقجکآپک ک خ زارش ی اورقمرکاوراسکاطاف م چردیاریتکائ ہدش ع ل اورن ز ی ع الح وبادرعنداراش م ج ک ج ئ ٹ ظ م ی وکمب ک س م اورن ز ی ن ہرگ مارالا ل م عض پ ک ت ب اولئماراورن ز ی ککمبحص ئ ج کداراش کوزی ن خں ع ن اپکب م تیک دوہر اورن ز ی ہرگ مارالا ل م حض ئ اور ی رہع پک:

بکاوجکلتراظرایس بکمج ق وقرایس
جب اقسمش مارجں بئدی بؤبکنرایس

ٹج :

اوج کلک م اس ج ا د گ ش ٹن اس ج
آ ن ںکبجارمارجں م آؤ دیکنرخلاک اسج

اور آپ ک ق مرک کدروازوں م س م م ک جلں ن کائ اورجم م تکائکئبائراسدرسکوائ

(بال: فئم باطروعفن ق الارص109)

آپ ن چسلسلسزائعہئلکں خ ءاوربشرمییچڑ   زارمرکن اح
قج م مض م پر

ح تسجلالیخردسرپریقسس

ساشفج ن سنالہنک مصی م ح تسجلالیخردسرپریکنہم
بآت   آپص ح عوفتاورز وتئٰ م اپملآپت ل ئ اشف م ساشف
ج ن سنسآپکمقتکتک م   جاسطح   :

ح تقو ا ل ی)ساشفج ن نسن(اداکان کب و لسآر   ت ج
مضسپرکپسپ ن نتفمیکساقیسبئسدتآر   م سجلالیخردج
اسقیکمل ت ح تقو ا ل یس ل آر   ت آپ نفمیبئسدتزید آر
اورای متک ببئسدتدمغ م پن   ح تقو ا لیکدیکسجلالی
دل م آپسپراا ع د   گاکاوقتبرگ علکمز م اوردرگ کخ م مضح ت
تسجلالیخردکخان م دوتشسصفایفزن تتاوران کدل م
آرزوتککبرگسمقت   تعضمعکیای دن ج ح تقو ا لئٰجبک
عل م تتسجلالی ن ک   کنز م یکستاپخا   کاظرکآپ نفمی:
ت مرک تر   ب اولدواحط   )حال:ل ئ اشف ح اولص91(
مبتاشف م 20ںاو مبسجلالیخردکہم   ج م را سککآفت
اوران ک ح کبن   اروظ ئ پما ظ کح   غثالل م بندانساشفج ن
سن خ طکذی ر   ئفمت تاورسجلالیخرد نآپسبافحصکاوان
کبئ   ئ اوراد وظ ئ پریطحکربر   ل ی ن م مکاناکخفمی ن س

جلالیخردنریضوم   مزنگگاردیآپکوصلاورزارک م ع ن ک
کن   غلسرپرم   گ (والاعورسلاع)

ح تش ؤنی مقسس

ح تش ؤنی مقسس اپ ج ا لربرگگر   آپتکنک م ئ م س
ت اورط ی م مزممرک ت وق ک ع برگں ن آپس ک ف ک ج م
ح تبؤالی ن اوراسشفج ن سنکسائگامقبذک   آپتکنک
مئس   اورخاجاح ییکخنانس   جغثالل م بندانساشفج ن
سنک ح ننت

ح تش ؤنی م ن غثالل م بندانساشفج ن سنکظ یوبط ن ں
سنازااورانکفزنقو الفقشالسموا ل   س ع الراقنرا ل النکبشف
تج ب اورانک ح م دعفمئ

شالسمک ل : غثالل م بندانساشفج ن سنقسس فمت
ک ج فزنس ع الزاقنرا ل کمقتآپسکائتانکطفظ یوبطتجفمئ
اورانک ح ن ک میل قدریفک م ن عضککسدات ج س   اورح تغث
ا یقولی نش ع الدرج نرح ال ع کاولدس   م ن ا ن اپفزنبل   اورس مئ
ن انکقلک   فمیک   ن بقلککترافزن ارافزن   ح تلس   ندعک
کیاپزمنکشالسم   یانشءال (حال:ل ئ اشف ح دومفرس210)

ح تخاجحفشازیقسس

ح تخاجحفشازیقسس اکبط ی م ا ممرک آپای صفشع
ت آپ ن شعی کذری تفک ب سا کتکبنک انکاشر ح و
م ف م ح تخاجحفشازیقسس غثالل م بندانک م صی م
ستاندونں ح اتکمقتشاز م ئ
ل ئ اشف م ک ح تقو الئٰفمت ک ج م شازپناورو ںک
اکبسمقتکتخاجحفشازیسمقت ئپانکیش م تپنچت:

حفب ع رکں م تکعن

اسپای روحمم ک ب

م ن اسشسسلک و اوی ج مقت ئت دونں م بی ممنبت
ئای عصت دونںایستشاز م ر انک م ب م ن ب بپیاسزمن
م ج کانکنبج نکخا تو انکطفرجعکتت انکاشرس مرفک
اظراورحئکپد کئ تتاکبروزگر ن انکاشرکلنا ل ک کبای
برگن ت ںتک ککئدیانحفکدیانسبھک ن مدصفاسسس
(حال:ل ئ اشف ح دوم200)

اسعرتسپ چ کاندونں سں م بیقبر اوررازونزکبت ب
تر ساشفج ن نسن خاجحفشازیک ج انازسذکک اسس م م ت
کو بپیصفت اک ن یب ل کو موبتکن وقجبک ک م
ر تانکاشرانک ق ک تکآئدار ج م ط ی کب اسارورمزبن
کگ یوج کمئوق نآپکاشرکلنا ل ستک

ل ئ اشف م م مدمت م پ ح تخاجحفشازیکذکخ م   ساشف
ج ن سنالہن ن یبفمہ   کو اوی ت ی ح تاوی قنرضال ع ک م ب
پ ت ای ممپیبفمہک ج حئومرفپ گ   تتتآپا   م د ن رجتاور
آپکغملہبوروح ن کقئ جت

وصلمرک: ح تخاجحفشازیک سوصل م اخ ف   ب ن 091
ی ل   تریاسم م 091   یدرج   و ل   091   ی م سنمادخںبوص م
م تسسل ح تخاجحفشازیاورخاجبؤالی ن ن وفتپیئ
ح تظم ی ن ل ئ اشف م 100   ی ل   اوراک ح ات ن اسکدرس
قاردی   انکسوصل100   ی   ص   والاعورسلاع

ح تشابالفخارزمقسس

ص ح صقوص ح تشابالفخارزمقسس ص ح حل برگ ت آپک س
ب ح تشنالی ککٰسم   آپ ن م ربرگ حتابال ع الح کدس
ح پ ب کش ن آپکروحنتب فمہ ن ک باپخق ع فمہاوراجزتوخ ف س ب
نازا

آپای بیشع ت آپ ن اپاشر م تفوروح ن کبنک   ج سا
اسار   م   ت   آپساشفج ن سننرب ک   تاور   وق انخ م
م ر کتت آپپمقت م   م موساشفج ن سنکگوی   گاورپ
آپکستر   اورسو ح م آپس فحصکسا ل ل ئ اشف م   م ممتپ
آپکذک م بندناساشفج ن سنک م ح م آی

ل ئ اشفکعرتسپچ   کشابالفءخارزم   ح   و م ف م ب م م
رک تاورب ج اشرک ت اور م بنادن ساشفج ن سنلاہمنس داد ت
حصککتت آپکسر   اشر   ح   و م فکببخان   ج کسعم
اننکبکہت ن انکو   سس   جص ح   ع و م   اورراط ی کمف
ح تابالفءخارزم ن ب سبرگںس فحصک ل ج م بنادنس
اشفج ن سنلاہمس م اورآپکزیرتکتآپک   کرگپ   سوح
م ستر   روحنفضوبکتحصک م بنادنساشفج ن سنلاہمنبانس
بی م فہمتتاورط ی کاسارورمزسآگ بفہمتت

وصل مرک : ح ت شابالفخارزمقسس کسوصل 125   ی پ ما
السار، لفاشفاوردی ک م   لاووقسکجس   کآپن 125   ی م وصل
فمی

ح تشاس ع سنقسس

ح تشاس ع سنقسس سنکم ن م س تاورطلنرا سکک
تبفہمتتآپکحلتزنگف درج ن   ل جاشر م   انساناز   ت
کآپ ع لا تبرگتاورول ی کدرج پفئت ل ئ اشف م ا یعرت م
ج ساناز   ت   کغثالل م بنادنساشفج ن سنکمصی م ت
شاس ع سنقسس نغثالل م بنادنساشفج ن سنس ب
مقتکتاورانسشطکتب ک ل خ صمقتبکت و اس ل کشطش
اس ع سنکمز م م تاورسکک ب سم لانکتب م طک ت ج ش
اس ع ن انکق ب کظف ب وسپیتغثالل م بنادنساشفج ن سنک

م خ م م لئاورپزورسرشرککشطکٹب م کدرینکیی میآخی ن
انکسرشکوجسغثالل م بندان ساشفج ن سن ن شطکٹب
فمئاساواقکعو   ل ئ اشف م دوساکئیاواق ن م ل ام ن ی   ساک
کعو باندوںں ح ات م مقتر   ںگاروای دوس   س ک فحصک
گ والاعورسلاع

ح تشںرالیابساساالیقسس

ح تشںرالیابساساالیقسس جنرکاکبیط ی م تآپکنمب
غثالل م بندانساشفج ن سنکمصی م آٹ   ل ئ اشفکط ل
سپچ   ک ج غثالل م بندانساشفج ن سنجنر م ت ی فم   ئ
ٹ ح تشںرالیمقت ک ل آئاورپمقت م غثالل م بندانساشف
ج ن سنکگوی   گ ان ں ن آپسخق ط کٹساشفج ن سن ن اپخق
اترکا ن پدشںرالیبحخش   ئاوراپستںسفمن ل کیخق م ب
پ   اروا د   ک ا ر   س ں م اساطزکخقجریر   گ

(حال: ل ئ اشف ح اولص210)

غثالل م بندان ساشفج ن سن ن شںرالیپ خ صٹجفمئاور
ا ن ط ی کاسارورمزسآگ فمئاسکعو بسروحن ن بعفمئیوج
کشںرالیساشفج ن سنکبحاحامکتتاور   وقانکخ م م
حضر کت ت خق ل ک ب شںرالی ن اپ س شوعکاورعصدراز ت رش
و ا یاوربدی م م وفر

ح تس ج بایقسس

ح تس ج بایقسس اپوق ک ع لا ت برگگر عوف
تٹوپ گری م اپ آپ تاورروح ن م ن ی ب ممرک ت ل ئ اشفک
طلسپچ کساشفج ن سننرب سآپکمقتبائ م ئ بائ
م یا ع بزگ ح تسسلر م دغزیقس س لارنا ک زارمرک ساشف
ج ن سن ج ان ک زارمرککزہرت ک ل و ں گ نفمت کزہرت ک ب
س ج بائ ک خ م م ب گ سا ک ب دونں س ک ل درہک طفگ ج ں
ح ت خ ع ا ل مسمقت ئ اسمقت م دونں ن ا ی دوس س ا ک ب ف ک
س کاس ک عو ب ان ح ات م مقت ر ں ل ل ئ اشف م صفاس
مقتکذک ج کہپ یکس کس ج بائساشفج ن سنکمصی
م تاورانودں ح ات م باگا ت ت

ح تشصلسقیقسس

ح تشصلسقیغثالل م بندناساشفج ن سنسہی ع ت
رک تاور وق انکخ م م حضر کت ت آپ ح تشعؤالولسنقسس
کمی تاور ت سک ب ا سکت ل ئ اشف م ابا ل ئ ح تظمالی
غ ی ی ل :
دروی صلسقیشعؤالولسنکانمیوں م ت ج ں ن اپسکک
ت انکتب م کلتایمتت ح تقو ال کٰکرڈق م ر ج ق رودول

سشسءالیککخن سسنجن ل ٹانں ن انکخقبکع ی ک ح تقو
الیسشصلکای ع تتکآپکمیوںاورشصل م امزکن م نت
(حال:ل ئ اشف ح اولص294)

اسعرتسپچ ک ح تشصلسقیکساشفج ن سنسبپ
ع تتاگچو شعؤالولسنکمیت ل ع توم م ٹرکا ل ساشف
ج ن سنسرک توعصدرازتآپکخ م م ر اورفضوبکتحصکان
ک ع تاورالن م کدی ئ ساشفج ن سن ن اپخص ن کمانپفہئ
روحن ن ںسسفازفہی الانکزارم بشرر ح نزلفہئآ م

ح ت م سیالقسس

ح ت م سیالقسس ص ح ک وکامتبرگ آپ ح تسم گدراز
ب نازرح ال ع ک تپت تکن آپ کاولمج ح ت گدرازکزنگ م وصل
فہگ تاس ل انں ن آپکاجزتوخ ف ع فہکاپج ن م رفہی ساشف
ج ن سن ج دوسیمت ل ت ی ل گٹاسوق ح ت گدرازرح ال ع وصل
فہچ تاوران کج ح تسیالمجدت ٹرکا ل ساشف ج ن سن س
مقتکو فہت ک م سیالعلمت برگت ص ح اخرالا ر ن ای اوق ن
ک و ل :

"ای مت ح تسم گدرازرح ال ع ن وضکت ئسکم کتوقاپ
ٹپاٹرکای ج رکدیاساثء م سیال)جاسوق ب ت(ادھآئ اورٹپکدیک
بںکطحاٹکاپسپرکلیدیکسم گدرازن فہکی خ اورالل ی

ام ن اس ک ح ارا اروا ک م گ اس ک ب س گ درا ز ج ک م ی ک ت اس ک س ی ال ک س د
ک د ی ک ت ال ذ ک و غ ک ت خ د ف ہ ی ک ت ت (حال:اخرال ا رص201)
ح ت م سی ال ن اپ ادا س رو ن ٹ ب حص ک اروا ن ک س ک آگ بھی
م رشو ا ی ک اپ وجد م دسرون ب اروا پ آپ ک ان ک صج ن ث ب ک

ق ع ل ح ت ن را ل پ وی ق س س

ح ت ش ن را ل پ وی ق س س ح ت س ا ش ف س ن ک پ و م ش ق و ال ر ف ز ب
ال ل ار ئ ا ی پ ا ئ ب ر گ ن د ی ح ت ش ع ؤ ا ل گ ن ت ق س س (آپ ک س
ن ص ب ر س ل ح ت س ن خ ل ب و ل ض ر ال ع س م (ک ف ز ن ت آپ ک ن م ا ح اور
ل ن را ل ت آپ ک ش ن ر ق ع ل ب ک ج ت ک ن آپ ق ک م ت پ ف ئ ت آپ ن
ار س ک ط ک ن ک دوران ب س ر ہ ض اور م ک ج ع م ا ن ن ک ل ن م
ح ت ش ع ؤ ا ل گ ن ت ق س س ن ت س ک ک ب آپ ک اجازت و خ ف ع ف م ک اپ
ج ن م ر ف ہ "س ا ش ف ج ن ف م ت ک ا ر ش ح ت ع ؤ ا ل گ ن ت ک و ف ت ک
ب آپ ک دوس ل ک ی ن ح ت ش ن را ل س خ ف و س د گ ک ب ر م ج ا گ اور ی
ق ب ط ی گ ا ت ق ا ن ا ی ہ م م س ا ش ف ج ن س ن اپ ش ک ف ت ک خ ط و ن
ت ی ل گ ا ن ک م ت ک ح ت ش ع ؤ ا ل ی ک و ص ک ط ق ش ن را ل ح پ ت
اس ل ا ی د ن آپ ش ن را ل ک ب ل گ اور ا ی پ ڑ ک ق ی ج ک ف ہ ک ی ل گ آپ ک
م ل گ ن چ ڑ ی گ م ی ک ک آپ ا ن ک ن ل آئ اور ا ن س ک ج
ش اس پ ڑ ک ب و و ال ب ر گ ا ر ک س د ک و م گ آپ ن ا ب ت خ ن ف م ئ ت ک پ ڑ
ل م س ا ش ف ج ن س ن ن ف ہ م ا ب م و م ز ا د س ب ت ک ر ن ت ف ا ل ل س ک ر
پ ڑ س ک گ دوس د ن ف ی م خ پ ڑ ک ق ی پ ن گ دوس ف ی ک ل گ ن ن

ج قرکشکاورامقاک پڑمکئ ج ن ئ ل ج شنرال ن اشرکپڑک
ج ئاورچلاسدنسم ل خ گاورآپتبمیی م م ل گ
(حال:ام السارص169)

ام السارکاسعرتس ح تش نرال کولی اورآپکروحن ع کاناز
ت کآپکاشر سپڑاپج س گآپای م لہرگ تکجآپکزہن
س ن جتو جتتج پبپر نڈ ل اس م ل م دپپندیکتتآپکزہن
اورن م ب تثت وق آپکگد ع ت مونک متآپ ا یاسادک
طقاسکتبفمتتآپکخءمییب کلہرگگر جآپ کتب
اورن کمساسمپپپ ن

وصلمرک: ق عل ح تشنرال پوین اپاولک ن قمپچ ئ
آخیوقترشو ا یک سکجریرکاوربگنخاکار ا ی دیئ م رواۂتک
طقآپ ن10ذیا ل 111 یکوصلفمۂتریوصلانالظسکلگنرہنرشی
نرنرس م گ

ح تقضشبالیدول آہدیقسس

م ا ل ء ح تشبالیدول آہدیقسس اپوق ک ج علاورصفگز
آپساشفج ن سنک خ ت ع و ف م اپامل آپ تالتل ن آپک
ب س خ صتسناز تبوقعل م ، م ، م ر، مرس، اوراسقکدی خ صت
آپکانرمجد ت اسزمہن م ش آفقع ءواکہمجد تاورع و ف کبمترک
ت ل ج عتوشتاورمعامخوص م آپکحصتو کاورکحصن س"آپک
ت ت م ای م رکبکفکحش ج اپمل آپ اورحش آپکزنگ م

تیتمجنشتری گتاسطحعن م آپکایکببم"ارشد"   ج م
مئکتا م ببنک   اورایاچتطزپکب ل   اسکعرت م ت اور
نیعگ   ن ع ب غ م قیاوربیالنب ل   ج م سک ب ا لرکگگ
اسطحفرسزبن م قآنک ت "بماج"کنمس ل   ج م ت ک اور م
وصوفاق   اس م بسکتت   نی ی ع کبتیفمئ   آپفرسزبنک
شعبت   (حال:اخرال ا رص290)

آپکایکب"م ق الدات"ب م ر   اس م ا   ب ک ف بی ع تو
م ستیک   آپکیتمتن آپک ع کم بلثتت   ل ئ اشف م
ک"دو م ت ح ت م بنادنجنر م ٹ   اور ب لگخاصاورعامادنواعشف
ب س م ف ئ ح تقضشبالیکآپکستب ع تپا ئ اگروزان
نپنسۃدوس   ت   دنضورحضخ م   اکتاورایایاپت ن ح تک
خ م م لک پ کتاورآپسقلکدعچ   اور ح تانکقب کدادی ع
ن م آپکک بارشدک ب پ کاورفمیلگ ک   کس   وسن م   تر   بن
سص م م ایسبنتر   ح م آئ   اورعبن م کببیلانلاورع ت م
ت بماجکدیکفمیکقضص ح ج م ع م   ج وق ن جم الئخ م ع ل م
پ ک ح ت ن فمیک ح تقضاسف م بدس کم رک

ح تشواحی نجحضت ح ت م بنادنکشن م ا ی ق ل ک پ ک
آپ ن ب مر ح ک ک   ک قضص ح کطفم ط   کفمی: ج ت ن تمعمحص
کفرسکواحی ک ل چ ڑدو

دوسی آم م ح تقضشبالی ص ح کخقخف اورمل ارشد ع ک ک
کب ایجول ی س   ا آئتع ی فمئ   (حال:ص ئ اشف ح اول ص90-91)

ساشفج ن سنس آپکب گ ماس تاوراک ع م ئ م یدوںں
ح ات تدل ا ل کت ت اورا ی سود کرائی ک ت کت ت ان ح ات م خ و
کبب تاسکب تدل ا ل کت ت

قضشبالیدول آہدی ن مہت م ساشفج ن سنس فعنکای ن
کہر م سالکتکنفصال م باسکذک اسحال س آپ ن چ ح ئ
م مکنک ل خ ل ساشفج ن سن ن قضص ح ک ی جابدیاوردلئ ک
ستاپم ق کواضک ع وغ ی ح ئبنفمئ آپکاسم بکذکش م ح ت
ع ال م ثد ی ن اخرال ا ر م ک اسپسچکقضص ح سآپکماسب
ر اوردوںن ا ی سود ک ع فنساسدک

قضشبالیدول آہدی اپ وق ک ع برگ اور ج لع دی ن ک
ہجودغثالل م بندان ساشفج ن سنس م ئ دریفمت ت اوران ک ع
ع ک ت کت ت اسطح ساشفج ن سنس بانسہی م کت ت اوران پ
خ صتجفمت ت

م برہنا ع ح تاشفمں ع الح ص ئ اشف م ل :

"کبساتالتج ت شاب س یک اسکجبحجملنساس ع
ح ص ح قدریمر وی ن فاشفکدکی اس م ل کای دنقضشبالی
م ا ل ءخ م لع ح ت م بندان م اس ا ل سحض ئک ح ر م ک م لئ
خ ب ع فمئ اور چ ک ئج م ن ک ن ک ئ ج خ مرکک قی آئ طب
خ سالکقضص ح کپیگیپ

ح ت م بندان فمہ: م ا ل ءدسرسپرک

ج خ م عل م بشفپبسمدبدوزان   ب ح ت نبور   سفمیکطم

مح قضص ح ک ل لؤ

بور   ن ای پلککقضص ح کس م پک

قضص ح دل م س چ ل ک ککئنہب ن   م ہر ککئ

ح ت م بندان نفمیکفکستگئ، ھ   ن ر   جںفجت

ج ک   ن، نگؤآکدودھد   تج   بایکآپکک م   گ

یسکقضص ح دل   دل م پن   ئ   (حال: ص ئ اشف ح اولص101)

قضشبالیدول آہدیسنابا   شقکزمن م تاسوق کعء م

آپکبامتسنابا   شق ن دلاننتاورعءصفءکب   قرکتتاس ن ع

س م ا عکب نازا

تریفت م ل   "ابا   شقک ع ح م کعءوفء م قضشبالی

جنریہیا   رکت قضص ح کآہئوطتغنت ل انکندندول آہددک م

ئابا   شق قضص ح ک ع و ف کباقرداںتاورانک ب ا لکتت قضص ح

کتقو ت کیعلتک م سدنں م قضص ح ش   م ں م چنیککسپ ب ت

کجت   کای ہرقضص ح سبر   گابا   شقانکزاجپسک ل گاداھداھ

کہتںک بہدش ن ا ی پلپنک ط ک ج پنآگتابا   شق ن اسک قضص ح

کسپتقککخدپلاورک:

ا   خا!ج   م   قضص ح کسپپی   اسسا ن نتد   اورمکاس

م   م ڈالد   تکقضص ح صمۂاب   جئ

(حال:تریفت ج دومص100-101)

ص ح تریفتکاستیس پ چ   کسنابا   کعءکام س ک م

و ع تتاسن قضص ح ک صکخطاپآپکپکدہ ی و سنابا   شق

ج ساشفج ن نسن ن خ طتیفمئ تتجمہتاشف م مجد

قضص ح کت ن کذک   ک چ   ل ج زی ک کذکص ح تریفتن

کو ی

- حش   ی
- ہیالن
- فوٰابا   ش
- رسلشب

وصل مرک: آپ ک سوصل ک   م   دی ک خمش   تریفت م

ل   "قضص ح کابا   س ب خصتاسکوفتسو اسحت م م   ئک

اسل140   یکسآختاخرکای روای م یب   کقضص ح کانابا   ک

وقتکدوسل ی141   ی م   ا

ح تشصالیرودولیقسس

ح تشصرودولیقسس اپزمن م ع و ف کلظس م د ممرک ت

ن لظسآپکی ف حصتکآپکس ن اہمالئ ح تاہماہ ح رضال

ع س م   آپتمعمظ اورصئہط سب ورت عمادیاوراصلفپکم

دسسرکتتچ ناسکثتاناکبیت ن س م   ج ک ت کضورت ن

غثالل م بندانساشفج ن سنفمت   ک   وسن م ادلیئاورص ح عمو

فنش م نکئ ن دی آپکشروقکاکبعءم ت یوج کعءمئ
آپکعتکن سدی تاورع بتیک ت کتتآپ نساشفج ن سن
نربکزمنپیانک ص م ر شف ب حصکاورخقوخفسناز گ

ب کواق: ل ئ اشفاسطح ل کشصالیک ح اردت م دا خ
نکبی اکشصایلایشخاب مدی ای ب بشنوش شاچن
ندار ااورانں ن بھکانکاسلکاوربیعتوتقکستانکلکبیاسوق
ملنک ت م اصلفککئکبتتانص ح نفمیک م م م کتن ب س
اوراقس ک ابوقآگ کس کس م بلدواورصتکنارادائسروشکدو
انآن ول ص ح کانہتں ن انکدلپ ب اثکاورانپای ع ک طری گ
تملن ن نابرگسکک م ن تآپکارادتکدا م پل ارزا ع ی م سک
کرا پلدی یسکنابرگنفمیک ج لاتلکب کاپقبکاسارس
آگکنچ تح ت خ کح فمت کو اسب کر ئکولالکطفکدی
پ م تکایایمدحکپبت ں ج کانارولیاورآثر ایستمجن م ر

تج: و ذاتجںمفکبدش م سم تتمفاسکنرسپ دن
کگکد ار ںکوس اسک سنروش اوراسک ش بیدلی
اسسدتکظرج گ و ولالچدونں م اس ق م تی ل نوال
خدر شرانکمز م اورخ م ک غ شرکناوراس م ذر بکت اورقرنکن

تج: ص اولمہ ل م د اورر وحتک م چنیخانسنسثی
م اسککابا کپس

اسواقک چ روزک ب ح تقو ا ل ی(اشفج ن سن) ن ق رودول

پنکجم م م مقمفمہ شصالیخابمکرکح کطقب ع تمح تقو

الۓکخ م م پ ن، ج ح تکن انپپیتفمہ"

بادرمص!خشآمی!آؤآؤ

ملنب ادبکستخ م م حض کبگ ح تن فمہکی ں ج التل

کفدکاپقبسسفازکنچ تاپکدوسکطفاسکر ئفمدی

چنالتلن ح تابالسخ (عالم)کح دیکو تریر ئکی سی شص

کصئ ع اورخصم اوربافض اوراسوقو ح تکمی گ

ح تقو الۓن خدمک ح دیک م یلؤک م بئصکسکشبپؤں

خدمن م ی ب ا شک ل ن م س م رؤ اوپاآگاورعضکک م یکت پ

ن یسکح تقو الۓساج تی ل گج ں م یکتڑاجتت م یک

ای ٹاتڑتوق دورجکگات، ح ت ن و ٹاائٹاوراپدسمرکسانک

کیاوردعفمئ"نرالنارک ح لمرک "

پ ح ت ن ح تلسدعک کتریاولداحدسعکودل نلجئ

(حال:ل ئ اشف ل 15ص621)

پوفاخار اپکبتک م درسظم م ل :

اشفج ن سناپمیکرہ م فمہکتت بد م عموفن م

در خ م نکک ن دی (حال:تک م درسظمص116)

آپ ن م د ع ک ت فمہئجآجدرسظمککرس م شم و ی :

★ درسال ی

★ ح ال ک کف

★ غیا ل شحکف

(آپکتیکبغیا ل جکفشح   یآپنہی ح س ل   م ب
عالالحجج خ اسک م ل :

تج: اورغیا ل جصب ن ککب   یشح   اسکاباء م حہنکگگ
اورو   وسنس ت رک   انںن اس م اسکذکک   انںن ک ا ر   اسد
شبالیاح ب ع دو ل آہدی   لگں م س ب سںن اسپاکک   ی اسک
ظ ی م پغیا ل ای بیکب   (باب: ک ال ن ج 1ص1216)
ک ال نکاسعرتسپچ   کیایبمل ت   ان ک س   ع
ع ظ ت   انافدیکانازا اسس ت   کآجبیکبدرسظ م ک کرس م
شم   ح تشصالیردولی ن 12ذ ی 119   ی م ط ق1 جریکوصلفمہ

ح تعم نالیقسس ابص ح   ای قسس

ح تعم نالیقسس ابص ح   ای قسس اپوق ک ج علوف
گر   آپصح صح   ایشحبایا ل یعم ب نالیبرمینع ب اب
بب ع ا ل ، کصحا   اورساشفج ن سن ک مصی م س   مہت
اشف م ساشفج ن سنانساپمقتکذکینکت   " ح تقو الٰفمت
ک ح ت ملہب ن الیمینک صحا   ح ت عم نالیاب ب ن الی
میںس م یمقت   ئت م ن انسکاکوالکو اقجبےگئرخںکستپ آی
تدرہفکتانںن اپوالکیش ن ک

تج: م دل ن ج ممراز ن پہتجںکپ سبآواز ن پہئمر وی
کزل م گ اشٹریتاس ل ہزک ک ن پئ (حال: مہتاشفص254)
اس م م اکصح ایکصحاد عمنالیساشفج ن سنک
مصی م تاورآپکانسمقتب ئتاسمقت م ساشفج ن سن ن
انس ج اوقک م دریفکو واق پےئگ رخںکستپآی مہتاشفکجاول
م م ب ن 14 م یواق ﷺصلسمجد

ح تب نالیمبالقسس

ح تب نالیمبالقسس ج الرعلاورصفگز آپسس
اشفسنک مصی م تختمہتاشف م شالسم ح تعمسعلازاق
نرا ل ا ل ا ل (ساشفج ن سنکفزن م ی، خ بح اورج ن) ناک
ذکک ک" ب نالیمبالالالفآپصح تبیالاناورص ح م م
آپراسسک ل کساطحگرتت ج ش کغف م لگسالس م لگ
آپکپن ن ست سببغثآپکہر م فہمت کآپ خ ایانوارحم
آپحتظ یک م عئتیآپکخ م مآتتحتقوالئن
آپسمقتکاور ب اشلکہر م ح ط کجانںن ا ح طیسح
فہمی (حال: ختمہتاشف ج دومص261)
قو الفق حتسعلازاقنرا ل کتیسپسچ ک ح تب نالی
م م بتاوربسعمکجم ت عمومئپقبرشعرت م س م
م نی آسنس ح فہمدیکتت خ صتفک پ م ئاسخبسبنفہمت
تکسوال کذ ب ل صف جتتاوراسکذ م پکقکاشلبق ن ر ت

یوجتکوقکجعء ج ک م م دق م سکتتٹآپ کطفرجعکت
اورآپاپفوفاس، ع وق ب وروح ن ساس م ک ح فمدیکتت ت انک ع
کاناز اسہتسلیجس کسافشج نسن ی ع الت ش نانس
فحصک

ت ن ، ع وادبخمت

ساشف ج نسناپوق ک ج الرعلاوربگی صفکعو ص ح
ت ن ہرگتآپبوق م ، مل ، مج، م ، مد، م ، مث، ف، م ، مرخ،
م ، ن گشع، م اورشرح ت بعموفن م مک مرترک ت آپ ناپعو
روح ن کزی بدیکفی بباندمیاواراس م ک ل تیوتیدونںسا کم
ککک ع کجئ ل ک ل ضوری کاسکتیی ک کجئ لجئاسس م
ک نیں ح رک کنی و ع سمی جکبعلک ع ح اورممکواض
کت آپ ن ب سری ک ت فمئجمورایمکستستو ںپ گ ، ل اب
ب ال ﷲ ک ککبای جصحل م اورعلاسمک م جمت م م ظ
اککبفرس م ت ب م آپ ن انکعب م ٹج ک ج طحایکبعائ
الئتیکبفرس م تب م اسعب م ٹج کگ آپ کت ن م ل ئ اشف
کبیا حص یکبفرس م اوراس م آپ نتفکب ا اسارورمز
بنفمئ ط ی کتمسسکبرگں ناساسد ک یکبکچ م س
کلئییککعو دیجمت م ب م ظ اوراسکارود م ٹج چ

م الی حج ال م ال ی اع ح تقس م ل م موالولء مشالل م ب
رہن شغث ال ع ح تس ش اباح العم ع ح اشفاشفم ن ا ل ا ل
قسس الران اپ م ر وم وفکبص ئ اشف م ل :
ح تملناباا ل ئ ظم الی ی خ ح تکجم ل ئ اشفم ظت ح ت
مبنادانفمت ک ح ت م بنادانک ع ع خادا ع تکروئ ز م م ج ں
ت ی ل گ و کزبن م وظفمتاوراسزبن م کب ت ککو ں کلگں ک
ل چڑآت ب سکب آپکعکب، فرس، سری، زن، اوروتک م م کزبنں م ج
ت فمئ ج کفسگا ل جئ تای طمر جئ گ عء ج الرکیقلتک ج
قرت ن ح ت م بنادان فمئ ب کعءاسقرت ن ک ک م ئ ں
گ

کبکالسار ذکاس ا اورسکا ح ت ن تی فمئ ج ک ت مک
ح رسحص ئت ی ع کبآپکتلتسف ت م ت ت ن ک آپک
اسقر ک ج کفس ل مل اککبآپکتلتسبمقو الا ن ح ت
م عل س خں ح ت ک خ جادمسدنفوزش ت بدشہد ک ت ت ئ اور
اسفظم ی ن دوج ی ح ت ک مظتسکب ل ئ اشفاورکبساللاسارارو
رقت ح تکجکک اسکمقمتاشفکنمسمسمکاورکبسدرنم ح تظم
گیکبشح ل عو اسکمہمت م م ح ر نجکبتیفمئا ن سخص
خصکبںکذکککجت

ح اشرادمم ع الیفاورب ج برترورحن ح تش الخشش بسوری
قسس ککبعفرالفرپشح ل اور ح تملنش م الیابعبقسس ک
کبفصالپبروم م ج ت ی ل گشح ل اوراسک ح تص ح الرفش

نالیابشصرالیفنکس م پکاورعضکک م اسشحکبروحنپکش
اکل

ج عب م ت ی ل گ اۃ لعب ن ح ت کرسئتفکطفنی
م کاورکبالئعبزۂن م ت ک ح تنا عبکتکواسخصکی
کب ل ج کملۂا ع اعملۂع ن لتکعب م ک شحبعبزۂن م ل
اسارمرفا ب کاس م دجرفۂئ

ج ح ت م بندانا طافعاقوخاسنوۂوراءاال م ت ی ل گ و ںک
سدات نکب بالنب پ ک ح ت م بنداننکبمکر س م کککب
"اشفالنب" ت کاورکببالذکرب و ں ت فۂئاوررسل"اشفاﷲؤائ"
اور"عائالشف" م گات م ت فۂاورکببر الداکی اوررسل ن ا خاناور
رسلبرتالخانۂسخط ح ت م علسخں ت فۂاوررو م رسل م ت
تتتیفۂاوررسل م ق خﷲءاراشی ف ئاصبرسلصال ع والاوصبوس م
ل ج پع ئ م آۂدگ ن ب م ق ح تملعکمالوج لایاعاضکتاور
چ رسئتف م بمرومارو ل ج کںمۂد ن اوررسل ح الاکیبل م ت
فۂئاسرسل م پنںوق بادائ ف ی تۂرووازب م طکثتاحدی اور ت س
فۂ اسرسلک ن ںمکںمسمسمکت

اورکبفوائ اشفۂۂنعۂ م ۂسخط ح تنرا ل تیفۂاسکب م
مئفۂیۂیکۂںسانبکک ت فۂ یفوۂجم م ئضورۂم ح
م اسخۂکستل کائی م نتک ج کسوح م د یکضورتن
ع ت م کبربسۂناورکب ت نرۂحسی ت فۂئ ج م تم م ئتف
م خاجاروز ںﷲیرح ال ع بلخۂدرجفۂئ اورکبارشدالخانااوراداشل م ئ

چ ا ب م اوررسل بوح الجد م ی ای ںبرسل ج م س اوسکب

دلئاحد ی و ت تیفمیاوررسل تنیدرتن ل بنیجنر م ع ئک مح ک ب

تیفمیاورمام ع ص ح ع ئ ن نیپ ل قسںیکجئثب ک اورکبب اقحہٰئی

م س مفو ح بن اورع ناشف ت فمیج م تم م ئ نینب ل درج

فمئ اورکبکالقئ فتف م ت فمئاوربر اہیری ح درخاسن

ابا شقجنر م ت کاوررسل غیذکمدانا خمتابالاوتدوغثو ق

وغ م ت کاوررسل قیاپقش ی م ل ی10 مملاامکقش ی م آرام

فمیعلحت م ت اس م رسل قیاوربر الیی ل اور11 مملاامک ج خ ءاور

مییبصک ح م دعئ خ فمئ اوراستری11 مملاامکب ظ م س م ر ح

فمئ م ماع ع کطفروان ئچناباتسد اہتسل نخن ح م اسوفتل اس

ترپاداکت ج کاولدش ح دس ن چٹسکرکاای دنپ ح رکروصل

س10 ی م مملاامکرسفتاداکت (حال:ص ئ اشف ح اول ص110)

ایک شبہ کاازالہ

حج ال م ال ی م وم الفقس ع ا لزاقنرا ل قس س الران 0 ذی اح

101 ی م وصلفمی م رواتیس پچ کس ع الزاقنرا ل ن اپازنگ

م اپ صحادگنکبک اور م عقںک ولی ع فمدیت اوران ک ل م متن

کد تتکاپاپ مپر ئ بدیدکفی اداکس، چنب صحاد س

ش ح کاپج ن بیاورولی ک چ ع کدوس صحاد سش ح کولی جنرع

ک ت صحاد سش احک ولی ج ئ رائبی اورچت صحاد سش فیک

ولی ربہ ب ع کاس طحآپ ن تمصحادگنکع ق ع فمئ ل اپج ن سش

ح ک بی ا یراسبتکحتم اث ع ک م کاستیس ت و ل :

"حترانل پکن وجاور ظلساکی ح کخص ا ل ک ئیاپقئمم خ

اورسد ن سش ح خ اککبیاورخ م آسنوجروبکبانکسدفمئ ج ک

ملںلصلوردولی خ سش کمالاشافجی اپرسل"خفںماشف" م تیکت

"چن ح تںرا ل وق وفتخ م جروبکﷺافاکسدنوس ح رابنپروس

احرائ وسفیرابدولفسد و صب آورن"اسبنس ی ح رون گکح ت

حجال م ال ی شالسماو ل سع الزاقںرا ل کوفتکبدرگ کچ ش ی

کتواح ح اصاورجئسد ن سش ح خ اکیسکرکںتسش ح خ اکی

سکرکںک ع سدگ م انک چٹبئسش ح ا یع صک بولی جنرس

درگ کچ ش ی بضچ ک پاورپ م س نا خرکنکارادظ فمیولی جنر

چڑنکوجب بئجت ک"چں ب ودوماضاز ب ع یؓحؤدارن ح س ح

خ ثننردآنقاریفبیوج ت س ن ک چاخرکدن" (بال: خفںماشف)

بحل!سش ح ثںج ک چش ی پن تب بئک م و ش ن ا ن

پ دیاور م ر کاجزتباناک ب ن وسا ل اوروالںت خطکیعلتک

انںنیبگار نککخدتمحقرک ک بوجدتماسعاسادکایوارچ ٹبئ

کنمکچاغروشن لاانںنبلاخصو م اپ چٹبئسش ح ک10مم

الامکتریباادائ ماسعسم ح فمئاوراپ ل 11ممالامیعسح ت

موصم ح کخصتری مظرکاسطحسش ح خ ثنکسش ح خ اکسکر

کںک ب ئم ح کد حقسد ن حودرگ کچ ش ی م ورننرا ل ن ا ن

ولی جنرکسد ن ںزدفمیت (حتمثا ع ص12)

اسس م م اکشالسماو ل موالفقحجال م ال ی سع الزاق

ںرا ل ا ل ا ل قسس الرانک وصلک باناک ب صحاد سش ح

گرد ک چ ش ی ک سد ن ت ل ج انکچٹبئسش ح لو ی جنر
چڑککچ ش ی آئٹانں نکلمۂناورخصو م ۂ م کت ئا ن ج دی
بماسعسب ت ک ل چن10مم الامکسش ح گرد ش ی م ماسعسادا
کت اوراصٹری ی 11مم الامکسش ح جگرد ش ی ک سد ن تماس
عسادافۂتت

بحلرسلقیاوربر الیی ج م حلتنولمئاوراظراپعئ
ح اوربرتعل غ تیفمۂاورع اصل م فلاشف ل ا ی ج مۂتاشفآپک
ص ح سد ح تنرا ل نجک ا ی جرقتاشف ج ک ح تملۂشدری ن ج
کت اسم م رقت ح ت م بندانردجک اوردیاناشفای م طکب م م
ج کا زۂمن م دیانحفلنا ل ۂن (بلا:ص ئ اشف ح اولص111)
حتنرا ل نفمۂیک ج وقامترگرکن، ح ت م بنادنکخ م م
حض ئاورعضکک ؤیۂ شخںپعجککۂنچ ںح رۂفل ن دیکبئ ح ت
کس م آپکۂدیانرک ساتا مجفۂلد ی یشۂبآم ا

از آیت و حدیث دو قرن اند بیقراں
اے بادشاہ کوش کہ صاحب قران شوی

ل ص ح قانامترک ح رکدیانکفۂلسع ا بمح فۂلام ص ح
قانک ح ت م بنادندسع ئاورفۂتپھ چن آپکدعکبکسسن
ص ح قان ن غ پ نتوفپۂئ

غثالل م بندانس م وماشفج ن سن ن ارشدفۂی:
م خنانک ع اورشنب ںستکرۂنچ کسن مدغنی ج
ۂدش ار ۂبرگںکغمزادوں ن س اورۂدش ک (حال:اشفالائ)

آپاپمہتاشف م تیفمت   ک م   ج ا م ح تسشالیمد
نرب قسس ح ت ق الیبرکک اوش چ قسس کزمن م   وسنکسک
تی لئاورسنشالی ا ل ک گ م ن   ئسنمصفج ق ص ح ک
میاور خ ت انستیککم   گای منسعلخنان م ایانکر
والتیلئ   و متولی م نءکدرجکپن   ئ
ح ت ق الیبرکک عالح نفمہکای م ن ع النکتناپگ
م ٹالالنک ار   گٹنچئت   م تانکخاجن چ سس ں دوس   دن
سشالیمدح ت ق ص ح ک گ م ن   ئ ح ت ق ص ح نانسفمہک
م آپکخشخیست   ںکآپکذری م ایغثج ن پا   ںگاورو م   س
کجریککیگاور خ یض ج کاودھک   اس م ﷺ محود ق ج ئ اورسکس ل
کپربدریئکستاسدرمن م انکظرکم   گاوررسلغی م ح تخاجخاجن
سنال خاج م الیولال چ ا ج ی نتیفمہ   ک م   سں م ایغث
ج ن پا   گاورو تقکستم   سکجریک   گ غضک ج طحغثا ل
م بسنکزمنظرسپآپکظرکبرت مئمسفمتتاسطحساشف
ج ن سنکظرسپاولمس ن آپکظ   ن ک پگئفمئتاورآپک
پبح ح تشعؤال پوی ن م بندانکخشیسئتکتغثزمن   گاوراس
طح ح ت م ومجل الیبریجنںجں گ قسس ن مد ح لماتغیاور
وظثی ح ت م بندانکپنیت   (ص ئ اشف ح اولص125)
ح ت م بندان نفمہکاسف ن ح تش مالیباعبکت ن سہن
دبکس ی   ب آپکت ن فحی وتف م د ی گ   دوسکبںکدیچاور
خ مکید   کبختمہتاشف م نرا ل س م ل   ک ح ت م بندان ن

فمہیک د ع قأتک م پنتںت اپآبؤاجادسع التلپن   ج ک د ع
ابح ل ائسواپ م ب   م ا ع قأتامہمعصاورںف   اوریبفمہتتک
م   س م م   خنانسداتنرٰ ہحسٗ سسحفقآنورقریفقنای زمہن م
مجدت سنالکشن   ح ت م بنداںکںپنتں م سناباسناورس
اباسورالوبالورحافباحفورقریاقبریاورعلابعلابابن ن ب نِ ح ت ک
ت ئ چ آئ

منقبت

نمسچٹگانکدا م ن مکب ل گنماشف
م ب بردم ںانکازل س ںغماشف
مانکمح بںکوںککسر عل م   یشت
مدِوق ت جں م ولــــيو عالــــــــــيمم اشف
ا نکم ب کن مئن فپہمرا
ز م پیشِنغثعلفپو احاماشف
ز م پروض   یفپکاسکرفیکر
کئ ف ک   یب ٹا جں ب   مم اشف
بج ن غثعلجںکاولئکاف
ول نمہز ک یز فمہں م ارشدعماشف
عا ل صوشمدکجکئدرہراشف م
تہلاٹکالال ع   انماشف
تجتج ر   خئتپ ر
ککسبل   جدوکں م ک ا   ماشف

ا د ل وکمپت م عضحتجکر ں

کوتج اذرا دھب ک ل ر ں م ہماشف

بککئاشفسپچ کش اشفککشنک

ک گ و وگں س م ب اح ماشف

(حال:ص ئ اشف ح اولص110)

غثالل م بنادناس اشفج ن سن صفعباورفرسپ عر ن رک تبارودزہنکس پادی بہمنجت چنجم کا کشاردوکسق سباڈاکاہا ل صی ناپا ت م دہفک کآپکاہی رسلاردون م ” اخقو تف “ بت پوفحم ح قدریرح ال ع ک ت ب ی کاردو م س سپ ںی ت ساشفج ن سنکرسل”اخقوتف“ ج 051 طق 1201ء م م ت ک گ ی ق ن ا ی گرہ ملہ وج الی ک ارشادات پ م اور اس ک 11 صت قدریص ح ن یبثبک کمکر رسلاردون ن بارودزہن کپکب اوردانسترىاردو م ل اردون م اسسپکئکبثب ن پ م ک ت سثب اکساشفج ن سنقسس اردونریک پادی و م

ت ن ج

تارک ل غثالل م بنادنسن ساشفج ن سن رضالع

- رسلم ق اصبک م ومات خ ئراشی
- رسلغی
- رب الخان

- ارشادالخان
- عایالشف
- اشفالای
- رسل ب وح الجد
- ت ت ع
- مبتاشف
- شفالنب
- م ق الدات
- فوائاشف
- دیاناشف
- رسلتفواخق(ببناردو)
- رسلحالاکی
- بر الیی
- کالسار
- ل ئ اشف(مظتساشفسن)
- شحسرنم
- سالسار
- شحعارف الرف
- شحفلال
- قاعلائ
- ن الخان

- رسل م تتف
- ت رنحٰسی
- رسلدرتن ط نی
- با ل ئ
- ناشف
- کالقئ
- ذکاسئ ا
- مقمتاشف
- بالذکر
- بر الاکی
- ربسمن
- رسلقی
- رقتاشف
- سکاک
- فلاشف
- شح ای

حالجت

حتغثاللص04ت00

ص ئ اشف ح اول115ت111

ساشفج ن سن ع دی اورروحنخمتص102ت106

http://www.alahazrat.net/islam/syed-makhdoom-ashraf-jahangir-simnani.php

غثالل م بندانساشفج ن سنقسس کشگدوںکصفںم   درج
کبکجئٹایطیدف   جئ

آپکارش ا م م ح تملںحجال م س ع لالزاقنرا ل ابس ع ا ل ر
ح ج نابسابالساح ج ںفزنوص ح سد ح ت م بندان ت ج ں ن تم
عمک ت ح تسککدسر ف حصک

دوس   ح تملںا ع ککدی ح تکارششگدوں م ت
ت   ح تعملاٰعملیجی ح تک ج الر ا م م ت
چت ح تملںعدالی   وی
پنیملں ع الینیالب   متوال شگت

غثالل م بندانک م رخ ء

قال الاشرف

سلسلة المشائخ سلسلة تصل الیٰ شجرة المقصود من ربط ربق عنه عتق من رق المعتددة۔

تج : غثالل م بیدان ح ت س موم اشف ج ن سنقس س الران
فمت   ک مئسسک س ش م دتپن   اور ج ن اس س سرابپاکل
ب سغمںسآزاد گ (بال:ل ئ اشف ل 15ص540)

آپفمتتک   چ کاسف(اشف) ن م داکباوربتامثسب پۂ م د
یخسب وور م   ا   ں ج کصر ح اورتضں م   ل   ح   م ب خنان ب
اوردودمن چ کپورد اورخکساٹۂ   ا

ا ی مقپآپ ن فمۂکج ا ر   فزنوںکدوس   و   ا رادوساورج ا ر
فزنوںکدش   و ارادش   اورج ارادشو ج خناپ چ و دودمنا مسبکدش
(بال:ل ئ اشف ح سمص606)

وی ٹآپ ک خ ءکامبشر   م ی چ م راسئ خ ءذککجت   آپ ک
خ ء م پ نمقو الفقش السموا ل حجال م ال ی ح ت ملنابا ل س
علازاقنرا ل ا ل ا ل کآٹ   جآپکفزن م یاورپسد ن ت

- ابا ل ئ ح تعملنظمالیغ ی ی قسس
- شالسموسللاکب ح تملنا ل کلاسقسس
- ح تشمعفدری قسس
- ح تششالیبظمالیاودھ قسس
- ا ج لاداتسعن ب خ قسس
- قو ال ث ح تشسن م ث قسس
- شامئ ح تش م وف قسس
- ح تشرکالیقسس
- ح تشقمالیش ز قسس
- شاصالیج بر قسس
- ح تش ج الیسبز قسس
- قضال ح تشقض ح قسس
- ح تشعرفمانقسس
- ح تشابالرم وی قسس
- ح تشصالیرودولی قسس
- ح تشسءالیردولی قسس
- ح تشخالیسھری قسس
- ح تشقضابمعف م م سھری قسس

- ★ ح تملںابا ل م ل یقسس
- ★ غملایٰملںغملایجی ی قسس
- ★ ح تشکلجی ی قسس
- ★ ح تشسع اال بقسس
- ★ ح تشراجقسس
- ★ ح ت ج ب قسس
- ★ م ا ل ء ح تقضشبالیدول آبدی قسس
- ★ ح تشحجفالیجنری قسس
- ★ ح تشادؤدقسس
- ★ ح تشقضرکالی قسس
- ★ ح تشجٹالیقسس
- ★ ح تشنرالیظ آبدی قسس
- ★ شالمس ح تشوجالیاح آبدی قسس
- ★ ح تشمرکگات قسس
- ★ ح تش ح ربری قسس
- ★ ح تش س الی م عل س خں قسس
- ★ ح تش م دکری قسس
- ★ ح تشسال ک دزار قسس
- ★ وق ا ل ءزب ا ل ء ح تشع االل ی برس قسس
- ★ ح تابالفخارزم قسس
- ★ ح ت م م د قسس

- ★ بب ح کبار قسس
- ★ س ح عبدار قسس
- ★ شجلالیراوت قسس
- ★ شسمالیزنن قسس
- ★ ال ملںشالیاروی قسس
- ★ سعل ری قسس
- ★ شظمالیبی قسس
- ★ ش ع دوسسن قسس
- ★ ال ابس خ ی قسس
- ★ خاجسالیخل قسس
- ★ شزا ںر قسس
- ★ شپ ع تک قسس
- ★ ملںشفالامم قسس
- ★ شیکادی قسس
- ★ ش م م قسس
- ★ قض ب قسس
- ★ ش ق الیی قسس
- ★ شام ن ققسس

منقبت

دیء ج ع لق اسکک
ئ ت ف م ب غ اسکک

اٹ ج ق ج ع ک چ ک ظ

ل م ں ع ںدرذ ن اسکک

م سناشفککمکپککدی

س ب مٰ ب عرت اسکک

جں پن قمانکو اپع ی س

دکئرا ح سک ای اسکک

کسر جں م ساپںمک جری

کلتتف م ولی اسکک

ت ذ رسساشفانانم ح م

ع م ں ںکلی ذکوتاسکک

(حال:ص ئ اشف ح اول119)

اسم کتوی ع ترں م ح تغثلال م بندان کرںک م امزیشن

رک غثلال م بندان م ومسنساشفج ن سنسبا راس ت رک

وال م ح تاسذا ل م ا ل ء قضشب الی دول آبدیکںمںمدرخ ں آفبو

م بک ح رک ، م ا ل ء کشگدوںکثن چ ف ن پن دی ان م ق

القب ح تع ماماہدی انم رشجن ریب ت ج

"مناظرۂ رشید"

علسام م اپ ت کوقسچئ ئ ح تمم افجنریب ت

ج کدرس سش ا ل ءم مجنری ج بںدھاٹ ج ن

"شمس بازغة"

لکاپ ع ط بفمی،انکشگد ح ت م وم ع جتقسس ب ت ج ک

شگومیم ح ط م ثجنری ت، ج اخفو ا م م وسںکمیںزخنادا ءرش

و ا ی اورعو ف ج گ معوخاصپآی ج م ش ولال، ش ع لا ن، ش رفالیاورش
ع لادرقساسارھ ک ع ودیبتیک غ عل م ا ن م ح تعم مومصپر
رودلی ب ت انک ن نثنکجت ک اخف و ا ہم م ح ت ش ع والوس گ
ت ج ک وابن اور ف یفن م باس ولا مج امم رہن مدا ل ثن ش س ی ب
ت ج کواسس ح تش غمع م د ع اورعمخلرومااورانکمیوفیف
عمشمتیایطفس ل اسقرنمب ع دیستوشککپر رپ
تجن

غثالل م بندان موسن ح تساشفج ن سنقدری چ ظمقس
س لاراناکخافوخ ء م شی ن زمناور دور م عماسمکچاغروشک، انک
ع کرنمںکبایطیتری انصت م انکاحطکگگ ئ ن، یںباحطک
کمل م ب م ز ا ہموفیفنکذککجت

ح ت سن بوب م لای اورن ی سن وق مدک است ءکام م ح ت
ممرکاشف اور ح تمبسکنمنمسیحعں م نیں درسظم ج کج ن ی
م اسکہناسدا ل ح تمظمالیسلی ل یفن م ن اکدرستکدرس
خناد ءاشفکنمراوینروزگرامعموفن ح تسع قاشفاشفالل نکخ م
م لت، ک چ م سکخناد اشفکعلقرفی ع ح تعم م ثص ح ققس
س تیفمت :

"کچ م سک ت کحلآپکج ن، ںکبکتوفضسآپککخ؟

وسن م اباائسمسآجتجعئکام ئ، انساسآنءعلکحل
پچ، کککک ل ک گ ش م د ی ع الح اور ح تمبال م ل یرح لا ع

س   ںکنفکںدرہفکو فنم ل   ک ل رہ م "خانافش"اپسپ ل

ئ   مظالیرحالع سٹجعئفن ح اسخنانکشگدرش

معقاشفجنکچیرحالع انکاسدتاورفن ح ک ت بکںس

اکر ج   ،مج (1) آپب و ں ک رہ   اسنسچر   ں گ..............آج ب

سوںعئاسرہگرعلپ ک غمپہزکت   د ہفنجماشفکدیخ م زہنزد

(1) ملیمعکنریمن یسقہظنو ا ل ء

اشرف المدارس کچھوچھو شریف

ی س ک ت م روای مرس کہنم ساوجدن تاسکاسسفمک م ال ی ححال م

ال ی اع ح تقس م ل م ومالوءلمشالل م برہن   شغثال ع ح ت

سش ابحالعم ع ح   اشفاشفمںال ا ل   قسس الراندرگ شی ک

ح م ا یعرتترکاکہضبدرسگ قئکاورمر ی کترک ب   ح ت کروزہنم

سکمرسکوجدکذکقمخن ک ستٹ1201   یسواٹسلط م   اوراسسیب م م

ت   کمرسکہنمکازک1222   ی ت اشفالراستاستقک ل ف الخ ی

ح تملہنعاۓائفن م کتنبشم ت   (حال:ت ئ اشف)

1240   ی م ی مرسقتکرا پگزن   ا،اس ک م غثالق سکرکں

ح ت موامائسش مراشفاشفالن قسس الران ح ئو مرفسلن

بہنسدقطسک

"قآنوح ی ک ت و رہنروش   ، ج س ایں،سئ،اخقاوران ک شن ا

م   اورجزنگکسارت   ،ض م ہکگکروحپاکت   ،اخقاوران ک و ج

ابت   کانئکتکسس ی سہمیبجت   اسساکشت ن   دور م سا

دورکص ل کاسہتپآمہ رککو ج ج ،دی، ت ،ماکقئکتر ، نقئش

ماکاکفوغواتءک ل س ج وج کتر ، ب تلکدورکعئیاوراکہیاور

م ص ل اپاسفی سغف ن ر ب ب خناد اتی ب ، ج کدی، ع ،

رونحاوراخقجہتکدائ صیںکاپآغش م ل ئ

1240 ی م م ج ککیاع ح تشام ئم بہرنم لنلاا ابحا سع

ح اشفسد ن سکرکںکسپسواروال م م ح تعماباال دسش احاشف

ج نول ع سد ن سکرکںقسس کا موانام م ج م اشف م حالمکبد

پی

دارالماشف م حالمرکر

" ج مرکر م آمورفکئس ل ن تاسوق شامئملنسش ابحا

م ع ح ص ح اشفمں)مںہہ(قسس اللاراناوپسار ککچ م سس

مرکپرآئت، انںن رشو ایک س شوعک، رفرفانکگدمرکپرکس

م ناک گ ح تمںہہنلگںپزوردیک

"دیکتویواش ع ک ل ای درس ضوری "

ح تمںہہکتیپمرکپرکس م نںن ل کاورمںشع ال بش

حج ع ال ح وشحف ع الحپانش ع ال ش محرمسکنمرکپرضا ع گھ ن

1911 ع ی م ای منواق م پانب و ق ک، ج م ت توکدورشوع ا

چ نمرکر م ہقع دی درس ک مجم کاورہن ح ت مںہہ)اع ح ت

اشفمںکچی(ع ال ح ح ت م بنادنغثصان م ومشافج ن سنقس

س اللارانکخناذیشنس م ت اس ل اسدرس کنمرماسشاف م حال م

رکگ، اورمرسکدیبلک ل جںنراناشفکخا ت کطقہناداار ح تمں

ہہرح ال ع کمرسکسپس م رفمہ پزمن ک تیں ک ست ک دنں ک ب
مکرپاور م ہتکسں ن اسزیتقدی ک ل ای جیعرتکضورت م س
کواراسخنانکافادمں م س، م رف، م ا م سقصرمرساشف م حالماور
م عوغ   ن اپخنانک ج ن م پابکمنو ق کت،سبروایتکہقرک
ئایایز م جیعرتک ل و ق کجاپ ح وقعکاعرسکفا   اور ی تاور
مرکپرکسعام ن جیت ک ل ایروقہنکاتزبدس م   ککلگںکچ دی
سروکپا،خات ن تیاپتمزیراتمرسپنورکدی اورد ی د ی مجد عرت
ت ک ماح ط ک ن ل،عام ن صفملاماد ن کف س ال م گر   ککمبکت
تاور آج ب مرک پرو م ہت ک غ ی سعامایرقہنکای م   کت   کشی
پر   م م اسملن م ، م نرسلکی م عاماپگکافادسزید ا   دی
اورانکک ن پکانماپ پکھککت

ح ت مثاع   ع الح ن اپسپسکدورانصرالی ح ت ملنم
ام ع ا ع ص ح رح ال ع م برشی کادار س م ک ن ک ل "مب"ک
خ بسیدفمہاور ح تصرال یرح ال ع تحتساادار   کمبر   "
(بالاشفکپرص11ت14)

مرساشف م حالمکقم1219   یطق1901 ع ی ک ب ق   کایعل
ملن م د،مرساول م ر ک گ اور ق گسکعلملنم صیص ح مرسدوئ   ئ،
ح تملنم م باشفمرکپری ع الح ن"

"البالی"

م مرسکابایئتریکہن م تیفمہ

"ب ق سپر م وفکم لیم ددبیتککمرسا س م حالم

کمرساول گاورمرسدوئاسوقجبملںمصیص ح محماورمرسسئملں

ںرمص ح ت، شوع م ملیم د ن اپعئک ق اظرنک، م دش ی ک م ں م

بابشی تر م رفرف ب ط واراک مرسپاپرنجۂمم ط م سملی

ن لا، ملیکالاراک مرس م س ط گ وغ انکشر گاورمرسم

اخ فپا نلچنملی ن لاوکلان

" م امنکب"

م ط س چ چڑکاوراپ ع ظ کدی، اسبپای ط ل ع ، م م دش ن

ملی ن لاوکلاکفسوفجوبدی ل ، و تیاراک مرسکشیپنئگ انںن

مرس م آکاس ق ک ت ملینرم ص ح مرسسئمرس اکسدکملینرم

ص ح ن م دش ص ح سفسوبدی ل ک ب دریفک، انںنجاب دیکانںن

اپ ع "امنکبرہیتل" ظ ک اسل م ناںکفسوبدی ل ، ملینرم

ص ح ملی ن لاوکلاسم ط کدریفککیترا ع کخاکج ھ بن

م ج ن ، انںن ستک، ط گ نجاسوق م تاوردیبیرنچھ

چت، ملینرم ص ح کاسلاسروکاور م دش کمرسسخرجکدیاوراملںصی

ص ح ف م ر م دیاراک مرسست، دالنگ، ملی ن لاوکلا ط گ

ن ملیم دص ح دیبیک ل کاحاءلامکںمس عٰد مرسقئک"

ح ت ملںلجا ل م م باشف ع لاح کاسبنسمرساشف م ح

لامک ت م رکپلںدشاراما ن ک ت م راعاور م یرت، اوردرجعککبں

کدرس تت، ج کدیبیروشن ن ن پنۂماامنکبکوق م پ ط ب کت

تیاسادکعبتکانمسحص ن   ت ملںا ل ع الن ع الح سق
شال ی ج م اشفاپم ل م تیفمت   :

"نبتک ہر   مایاناز   ت   ک م   تکستکعبتکبانم
تکناسمرس م ت حصککملیرفالیاورملی م ع صحنملیکن
ل ت"

1220   ی طق1911 ع ی م م ںلم صیص ح کوصل   گ،انک ب ح ت م ث
سرتک آخی دورک شگدرش ح ت ملں ع ال ما ع ک ح رپنر موملاول م ب
رہناع ح تاشفمں ن لک م صاراتسدفمئمصفکفضبیی ن1226   ی
م خ ف ع ءفمئت،انکدور م ر ج   انکوصل   گانکتری ر ح 11صاا ل
1226   ی   (بال:دبب سریرامرشر ن 10 ج 54دس 1910)
1910 ع یت1914 ع یاسادا ل ءملں م ع ا ل حنقسس   م صاراتپرونافوز
ر   ا ل امت14/اکب 1921 ع ی ک شر م ج بولجن ق کٹہزارضا ع گھ
ک م نشئ   اتاسم انںن ل ت:

"م بضترتقی آٹسلسمرکپرآت   ںچن م کمرسسچپ   ج ب
آئمرسضورآئ، یمرس ت ت سلسجری   اسکعرتت وخموبس   ، یمرس
اع ح ت ق سنال فش ابحالعع   ح   ص ح   ق اشفج نکچیکدس
مرکقکئک   ا

خاونعل   ککاور   م رتککرکنمرسکسبکہوجدم مرسکانعوجپن
پن   مرسکطفسسلں ج (21/1251ھ) م   م   ات ج   م اع ح ت قوک
ش س م ص ح   م ثاشفج نکچیبتی فم   ئب اخمامجنبم ث
ص ح   ق نسلں م   ط کازسناکرنکانب ع   م آئجبمامص ح ر ئی

ق صر جب ع ال ص ح ظن سجحاجال ص ح خزن، جبفال ص ح م ،

ح م ع ص ح ئن ظن، جب م ال ص ح وخ ال ص ح دللعل، قریش ص ح

ملینرم ص ح س م ر ک گ ، مرسن کوھلاورچ م ک ب9/شال1251 ی

طق14جری1921 ع یجبملن ع ال نص ح فضمادآبدیکبیاوریونجتس

طکآمشوع گاوردوملیصحن م ر ک گ") باال: ا ل ام ت14/اکاب1921)

اسپچک9/شال1251 ی ب ق14جری1921 ع ی م جلا ل ح رحف م

ح تعمملنال ع ال نص ح م ثمادآبدی ع الح ت ی لئ

ح رحف م ح تعم ع ال نص ح مادآبدی ع الح وسنک م رصبی پ

کای م ضبمادآبدک ق بج ر م 1194ء م پا ئ آپکدادام ع الح د

ک م رعلوم ث ح تش ع ال ند ی ع الح کنمنمپرک ح قآنکبجم

ن م اسا ل ء ح ت ملن ع ال نخن م ث فرکتجدلن پ ع بفرسشوعک

1244 ی م ا ج ش ی جکدارال مٔعیٔنٔیٔ ع ن م داخ گ ر ج 1250 ی م د

ت س بنا ز گ اسسل م ح ار ع ح تاشفمں کچیقسس س می

ئ اورخفسبنا ز گ

ج و ق آپ ع الح ن اسدمم ح تصرالیعما م ع ص ح ع الح

)ص ح برشی (ک ح پ ت درستک با ع گھضک ق مرکرتی لئ

اسوق ںای مرس'ج م اشف م حال م"کنمسقئت ح تحف م ع

الحکا ن ح کب ع العوج ن اسچٹسمرس م بک ع فمئاورلبخی

مرسای ع الن پادرارخ ک ح سجم اشف م حالمکنمس ب م ر

وموف ا چنجم اشفک قیلنٰ آجباسجم کنمکطف ن کت ئ

دنب م م ح موف

ح تتحف م ع الح ا ی ع سزاوارن بآفی ش کمل ت آپ ع
الح ن زنگک ی لتانئخب سدی و م کخ م او م م گار آپک
پک اوررو حنکتسسشروجد م باخقکی ناوراوصف برگنکا ی ج ںآہدت
آپاخق، ج س ، اسل، ایر، ، کدار، ع ، ع ، تی، تب، اسمس، ادب،
تاضا، اسء، تک، ق ع اورسدگ ج بپ اوصفسب ز ی ت

ج م اشفکمدک ل ج آپ ع الحک خک م م کئ ع ت م کئ یوغ
پ کتتآپ ع الح اسج م اوراسک اتس ک م ف م لت چ ن مرکر، ی پک
انئگمعق پ وغ ککئخصسلت م ن ت چ نگا س آپ ع الحک
خ م م پ پ ککگتآپ ع الح ن قلفمکعرا کای مرسک ں ھ ادہ ج
کک م ی سل م ن تاورک بی پ نفمیکخدآرام م ر اوراشفک ط
ومر ی مومکشر ں

آپ ع الح ا ی انئملاراورص ح ثوتگان س ت رک ت م آپ ع
الح ن اپزمںک ب ب ح اشفک ل و ق فمدیت ںتک آپ ع الح ک
بہر م م ر کآپ ن اپ ی مستفو خ کک بباوقتاشفک ط ک ل
خردونشکا مفمی

ی وج کالتل نی نرسج م اشفمرکر م و ب ک رکک پکو کب ب
م وفاصب ع وف ج م اشفمرکر م ب ک ئاپدورط ل پنزکت
ص ح " م وموالو م ب ربہن" فمت :

م ظ سو بگس ضا ع گھکروئادم ح ک ت م م گک1251 م ادارال ماشفک
ش خ قئ گ ت اورا ع گھض ج کملیاشف ع تنی ن اپمیوں اور خ ں
ک ذری اپ دوروں کخص م ک بہی ت، م ظ گس اور م ظ مرکر اور م ظ ادری ن

دیب ی کتبت م آخی ک ٹ ن دی، ح ت ملن ا ل الج م م باشفمرکری ع
حال "الابال ی" م رقطاز ک

" م نن ا کدیدرس مرساشف م ح الم پانف ئ دیب) ن ال، کال(
ن ب ب ادن ت ک م م ا کح ن اواشف ن واراک مرساکخاصتک
مرس م لح ل م ر ئدیخمتانمدیر "

شالال م1252 یکو مرکوق ب آئ ج شا م ص ح صرمرسکجوج سن
عرتک س بدرک قارپیاورسلن ج ک مق پ ح ر پنرا ع ح ت م موالوء
مشالل م بربنقسس مرکپرتی فم ئ اور ک باپ م س تنس
مرسکجیعرتکسبدرکاوردعءفمئاوراسمقپفمی:

"مرس ب تقک گ فباٹگمالتلاسکمف "

ح رپنرک م صدعؤناوارآپکناس ح ت م ثا ع کجناسرپساوارارکنعئ
ادارالمغمِن س اشفک غ م لجوج اوراریاوراخاص ن غ م لرفرسقتک
مزل ط کنشوعکدی اوراست وق ، غ م لسچرک اول م ءع ح ت ملن
سنص ح اشفبگری، ح ت ملنغمج نا ع ، ح ت ملن عاؓی زا ی،
ح ت ملن عاؓی ع ن ادارالمک ت م رکدھکجدیاواشافنفاواشف
ن ن اپاثدکی اکبک چ م سکدل م ا مرکپرک ع ت م ی،ایرپی ن
کاسطح م ج بئکاکبک چ م س ن ج م اشفک چ م سکبلدارالم اشف
کقارادی ا ع ح ت م موالول م بربنقسس الرانکملتوجدعلم ت م جخص
عمم شانمذاتگام ن ادارال ماشفمرکرک ل ج ل پ ئاور چ کاپفمئ

1960ع تی ح ر م ثص ح ک م طو م سپس م دارال مشافمرکر ن وفاز

کبرسن ر آپ کوصلکبغثوق م وم ا مئتجارا ح ت م لنس

ش مرارشافع الح ن سپسک م کرونید

(باب: م ومالولء م برہن ص240)

دوسی ج آپفمت ک...........

"ج م اشفکمقوبذکخ اع ح ت و ع ال ک م ومالولء ن اسید "فمن"

م بفمی

ح ت م وم ا ئ قسس کول ع ی اورسد ن ک م اپح ت ہف ک

آخ ی ا ی م ق ج دیالول1255 ی م تیفمتی

"ال ت لکلکلک ک کانکابدسربی چ اورتمعم و م ل ت و

ح ی وفوم نوتفک بلجنن

ج م اشف

جاسفکبی ادارال م سحصک"

ج م اشف(مرکر(کانام ا ح ت علرہن ح ب م حنص ح ق سس ج

روشدلودمغبرگفمتت، ح تفمتت:

"اگ م ی زنگنن وفکتج م اشفک وسنکج م از بدوں گ"

(باب: م ومالول م برہن ص224)

ص ح "س اشف ج ن س ن ک ع، دیاورروحنخمتک ی ج ئ " ک م ضع

"ج م اشفکقم" م فمت :

اشف م ں (کچی) ن م رکر م ا ی ع ال ن ادارال م قئک اوراسکنم" ج م

اشف"رکاس م درس ظ م ک م ا م ک آپ ن وسن ک ج ع کاس ادارال م م

ترى ک ل را غ ک آپ ک ح پ ع ء ن رض م ى ظ کاوپرھئیکآ غز گ اور ب

تر ع ص م ى دارال م وسن ک ب مارس م ش م گ ں س سلکف د اد

م ع ءفرغا ل ت ت اشفمںخداسککل فمتت، ج سلں ج تتآپ

ب ن مرکرتر ى ل جت ج کصارتفمتاورآخ م اپدسمرکسفرغ

ا ل طءکدسربیفمت ى دارال م آج ب مرکر م م جد اوراب ت ب شر

تن ع ںکآپسب چ ىاشفمںکایکرنم جانشءالر دنتقئر

گ (باال:ساشفج ن سنک ع ،دیاوررحونختمکی ى جئ ص114)

ح تع م ى اخ م حص ح ق"م مم رن م ل :

اساشفمرکرکسنالرک ح ت س م ومشاف ج ن سنک چ ى س

خ ص ن اورآپکروحنتجب حص اوریبطرپفناشفکای ج ج گنن

اسطحیاشفشاز جنپرکمرس ح کدورحض م ا ی بلب کاسآبر

عوادبسصف وسن ن ب ایجںساب ر

مرکرپکیقبصافردرس اپ م اوراد م اس ق کانر م ج ں پ

ق ئ تاور م رت اوراوراجلطرپاسکتریاسطح

1.مرس م ح ال م1210 ی1191 ع ی

1.مرسطفیٰ م ح ال م1219 ی1911 ع ی

2.مرساشف م ح ال م1241 ی1911 ع ی

4.دارال م مرساشف م ح ال م(گلہزار)1252 ی1925 ع ی"بغفدوس"

5.ال م الشف1291 ی1901 ع ی

دارال م مرساشف م ح ال م(گلہزارمرکر)کسبداشام ئ ح ت

س ش ع ح اشفمںک چ ى(وفت1225 ی1961 ع ی) ن م ثا ع ملںس

م اشف ک چ ی)وفت 1211ی 1961ی ع ی)وصرال ی ح ت ملں م ام ع ا ع

رضی)وفت 1260ی 1940ی ع ی ک ستاپ دس مرکس 1252ی 1925ی م رک

اوراسکسپسفمئ پروا"دارال ام مرساشف م ح ال م" مرکرضا ع گھ

ب سلتا ی بضہ ک کمہ تقئکد ت اور ت خمہتانمہد ر ج کس

پسششنغ ث ح ت ملںاال مال ابالمسم ص ح ق م ث کچیدا م

بکتاللوعم زم م خت ا ل ء ح ت صرال ی ملںال ابال ء م ا م ع ص ح ق

ا ع ادا م بکتاالل (باال: م ع ص1روداد61،1261)

ح ت ملں م مرک ح م ح ص ح ق"اشفکمہ ضاورحل"کحا ل س

فمہت ک" م ث ا ع ح ت ملںس م ص ح ع ال ح اشف م ںک ب اشف

مرکرکسپسر " (باال:اشفکمہضاورحل ص109)

ح ت م ث ا ع (رح ال ع) صفںمہکسپس ن ت بدارال ماشف

ک م وق م م کئفمہت ت درمن سل م بکئضورت پ تتآپ ن

اسرتکفمہک مرکپرت ی لتاور ک ط فمہتاوری و ح س ا ل گں

ست ح ت م ث ا ع ع ال ح دارال مک ت اورتبظمسانئ م اورمث

ت ی وج ک آپ ن اپ دوص ح زادگن شالسم ح ت م سمن مں اللاور

غزی م ح ت س م شمںم اللک ح ت حف م کتب م ب ح ت ش

السم ن اعادی سدور ح ی کت م ت دارال ماشف مرکر م مفئ م چ نم

م حاد سوردی اشفر ق از :

"چد سل ک ع م والبرگار ن دارال ماشف مرکپر م ادخ کادی آپ ں

ن درس ظمک عو ع ب، فرس اوراد ک ب شرک ب پ ھ اوراسذ فح م ملںش

ع ال نسپراپاراکاب ف ک" (باال: م م ت اشف ص56)

خاناشف ھاری کچشی کاکم عءاورمئن بدارالماشف م

تحص کاورفا غ کبدیو م ک ع خمتانمدیاورآجبنیںکرن م د

ر چ نماسطح : اشفامئ حتس ب اشف، اشفا ل ء حتسحم

اشف، شا ع حتساظراشف، خ ال حتس کہمل اشف، حتسمل ن

مصفاشف، حتمل ن ح ساح ح کث، حتمل ن ساح اشف، مل ن م اشف،

پط ی حتمل نستی اشف، س ف اشف، مل نسج لالی اشف، مل نساح

اشف وغ

حتمثاع ع الح دارالماشف مرکپر م بضہب م ک ح س

بتی لتت تحف م حتمل ن مبعل اشف محمکبن ک"سکر

مثاع قسس کدرسوتری ککم چڑ ئچ ل سلسزید عصگرچ

م ج دارالماشف مرکپرا ع گھیدوس ماارسک طکامن ل ن م م تک

م تری کہدش م لتکوکبجاسوق دارالماشف مرکپرا ع گھک

عو چ سود ماارسم ادخ ن ب ت، امن ل ک ل ج حتاقسمثا ع

کسم وکبآتت م م تکسر عموفن حت عالح ک ل م

رود کامن ل ت م م تکصح کحف، حلنتیچ ل سلسامن

ل کعو ککہنک تلنکن بن آئتاورناسک ل مق تم

(باب: حتمثاع ص41)

حتمثاع پا ع قراورشج وجلکہوجدانئہغوبرکمل

تادبہوطزاحانکفتک ح تانک م فدقس ںکہوجد ع ل ئ للازر

ر ی م انکامنگ م بچیر یروای م اس ع ک م د طجاباکبعء

م شم سس کدارالماشف م اسدور م ک کذمدارحاتابامنگ م

پ ن ت ک کافاداگچغعل ت، ل سالوجابسککقرطکصح ںک

اناز ضورل ل ت

ای مت ح ت م ث ا ع   ن ک م رکب"شحجم"کامن ل ر   ت

ط ل ع ن کسالکجابم تی م الکدی اباگم ث ا ع اسجابکغ

بتت م کدلں م غ تثپا ت،اس ل آپ ن جابسکبپرف ح وانطک

اظرکت ئاپ م صاناز م م فمی:

مشاءال،سنال

آپ ن تتمنیںکتیوںکال کرکدی، ح ت م ث ا ع   کاظرتثن

ا ی ج ن ط ل عپیواضکدیکتریتی غ   اوردوسیجن کافادبخش گ

کواق ا ر ط ل عبی ح سپ ھ   ب   ب   نیںکتییال دی

ح ت م ث ا ع   بپی خ ،بملمظ،ص ح ق،ص ح لنو ن گ

شعب ت قبداتنی سمقوجمتیفمتت   مضعپب ج بمل

تیفمت ب ب شنداخر دی ت د اور ل ج شوںنآپکش خ ب

ت کت ب ب م لنآپکتیساسدکتت

اسآفب ح وصاق سبدیوبم   لزتکن تاورآپکنمستات

ت دیبیں،نیںکب ب عءکآپکمبتبنت جبم بدی

آپکسمآی،ذل ا یحصاقکآفب غلر

حیحوحظم   آپککمت اوئع ساشعم   وبدیم

موف ئاورسریعخ م دی مصفکدی دی م کنی مزوشنادارخ م

انمدی اڑتل اڑتل گ س بارر ،پریپریراتبدیواشع م م

م وفر ،اکعءکوضسفکنزادافمت ح تمصفکدیخمتک ت
احطتیسہ آپنایای ن م پریپریراتگاری

ضا ع گھ ق گس م ملی عالح ل ییدبیسمظ ت،بنزعء
مظ شوع ا،حتمثص ح قصتای ن سبر پ ن ہل، ع
کوضسنزفادافمئاورملی عالح ک بحاسکیعلتکگںوہنپگاوردسں
متپبپااورسپککت م ادمغخاب گ،ن ی ذ ل کستاسک ش فش ئ
،گسک م ش

ح ت م ث ا ع ک ع سپس م دارال مافشمرکپر ن ہیا دی
اورع خمتدی تری اشف م آپکاع سپساوراشفنازی ل ں م اعافک
گ "

"اشفمں عالح کبآپکسسزید عنیاور م ت ن ئ آپن
کسپسقلکبآخیدمتاشفکعجوارتءک م ل طکنکمقدی "

(بال:اشفکمضاورحل)

یںت وسن کلطوعض م سوںمارسآپکر ئوسپس م دی خ م
انمد ر م خ ص سدارال مافشمرکپرپآپکخصیدگر آپک
سپس م یدارالمپوانچھ، م لارتءپپن امزیممحصک ح تمحمک
دارال مافشس ب گ ا ت ت،خص م ت ن ی پڈچ کستاسکتمشںپ
ن ر ک خصتجفمتاسک بیبت ت ، ا ل ہتست ت آپکسیکم
دارال مافشساٹدارال م ی ن ک م ادف

(بال:م مجمنرم اپی1011بان" مثا ع اورال م لاشف"ص99ت106)

حمس، حمہ ب ع، گارغث، نرن خناد اشف، شہمس ا خ بسمہی ا س،

آفبع وف ح تعمسش مصح ق م ثا ع ع لاح لاح ن16ر ج

ال ج 1211 ی بق 15دس1961 ع ی یمدوشبق ظبہر ب20 م پاسدنس

فنسبکطفر ح فمئ

ح ت م ثا ع س م اشفاشفال ن ع لاح ک وصل ک باداراللم

اشف م حالمرکرکسپسغثالق سکرکں ح تملںال س م مراشف

اشفال نرح لاع (وفت1461 ی1996 ع ی) ن فمئ

م مہنرص ن16پ ل ا :

ح تصرالیاور ح ت م ثا ع ک م کانبوح پذوا ل 1251 ی1924

ع ی م اسو قح فع لا ن مادآہبدیاوراآج ک حف م خ م دی ک ل مرکرپ

آئاوراشف م حالمکشنروزاسطح م نخ م کو ای سلک ح شقک ن

م بمتلو ب ح لاع ا سکای ساببرہغفدوس(1252 ی) بگ ج کپدا

گلہزار ق مرکر م شام ئ ح تاشفمں ک چ ی ن اپہہ ک تںسلیاور

اپبرگندعءوسپسسناز ا ی ہغفدوس"دارال م ا س مرسافش م حال م"

کنہمس م رانہماورمجعءطب کا سک ل سمہیارفر ب

(بال:م م مہ نرص16فوری/مہرچ1001)

یجم بسبسسکبوسکتویواش ع کتر اسجم ک شالی م ث

ا ع کچی، ح ت ملہنعدالی س ، م ش ح لا م ملہن احیرخں اشف

صح ، عم م ع لاشخں اشفنگریص ح ،غثالق سکرکں عمس م مر

اشفکچی، جل اا ح رحف م ح تعم ملہن اال ع لان ص ح م ث

مادآہبدی، م اللہ والیعمسم الی اشفاشف(اوران ک خ اشر ح تملہنسش

م الی اشف)رح ال تل ع ا ج ن دی اکبعء م ع وں م ت ر اور ں
کفر غ ط آجاکب م اس م م شرکجت

خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں

م وم الوالء س ع ح اشف ال ن ال وفاع ح ت اشف مں ک چ ی ن س
اشف ج ن س ن ک درگ س ک فص اپ ال ا ی خ ن قئ ک اس ک ن م" خ ن اشفحسۂ
سکرکں "رک آپ ن ں رشو ا ی ک س شوع ک ذک وف ام اق اوردی م ل تل م ئ
ط ی اس م ج ری ک آپ سل 11،19 م ام ال ام ک س اشف ج ن س ن ک ع س ک
ت ی ت اس خ ن م ادا فم تر

ظو ئ اشف م ل "اع ح ت ق وک 1190 ی م م ن پ م ئ اور
سل م ک ر ک 11 م ام ال ام ک خ ق خ ن ا ن ج ح ت م وم س ن س اشف ج ن س ن ق س س
ک ع ز ی ت فمۂ (بال:ظو ئ اشف ح اولص0)

جامع اشرف کچھوچھہ مقدسہ

خ ن اشفحسۂ سکرکں س م اا ی ب اباادار ج ک ن م "ج م اشف"
ی ا وج ع ک ع ادار 1901 ع ی س اس م ت ت ک ن واش ع م ب ی
کدارادا ک ت آر اب ت ب شرعء، فء، حظوقاء فرغ ک وی ن و م ا پ خ مت
م د ر اسادار سفرغ ن وا ل ع ء اور فء ک "ج م" ک جت
10 م ال ام 1291 ی ب ق 1901 ع ی ت ک ن ج م اشف ک م ق پ غ ث
ال ق سکرکں س م راشف اشف ال ن ن ت ری خ دی، ج م آپ ن ع ک ف ،
ق آن وح ی اور ت ری ک ح ال س دل ن ان از م ب ن ک اس ج م اشف ک ق م پ اپ ب
پ م ت کاظرفمۂ ،ج م اشف ک ع ی ت ض ں ک ط ق ج ی ت س آرا ک ن ک زور

ت غ دلئگ اوراس ک فوغ وارتء ک ل عامکا ی پمبدئگ م ح فمئغث ال ق سکرکںس م م راشفاشفال ل نک حطۂ صراتکا ی اقس:

"م مومساشفج ن سنرضلا اول ع ک آسنعل م ج ماشفکقماس مومفن س کای ک ی ج م ی ن پ م تاوران طکۂ ع اورمیدیی آرزؤںک ت موماشفک آسنس ب ع اوررحون ت ب گ دوسی ج س م آست

آپ ن م د ج ںپاحٰۂعۂ الشفکش خ قئ ک

شخمچ پر1جن1901 ع ی

شخۃرتی6 م 1901 ع ی

شخسنر12جن1902 ع ی

شخرجلگبر1س1901 ع ی

شخۂریضمادآۂد10جلئ1901 ع ی

شخشرامر11جلئ1901 ع ی

شخٹریضبوچ19جلئ1901 ع ی

شخکلپراحآۂدگات20س1901 ع ی

شخۂچ رسدی ج ر16شن1291 ی

شخبنی11مرچ 1902 ع ی

شخگی19 م 1902 ع ی

شخج م ن مادآۂد11جلئ1901 ع ی

شخرائۂی15اپی1902 ع ی

شخپۃپگھ10اپی1902 ع ی

ی چ و م ہت ج م خ د ح ت س کر کں ن دور فمہ ی اور آپ ک س پ س م ا ن

شخ ں کقمہ ع م آ ی (باl: م مغ ث ا ل ا گ 1006 ص 11)

کتب خانہ اشرفیہ

حج م ز ی ص ح ن ی ئ ن ظ ک خ ن م ی ن ر س ع ی ل ل ط ڑ ھ ا پ م ق ن ص ن ہ ی ف "ا س م ک

خ ن م " م ر ق ا ز :

"ت ی ص ی ی ک ا ب ا ئ س ل ں م ح ت م ل ن س ع ح ا ش ف س د ن

س ک ر ک ں ن ا ی ہ ر پ خ ن ا ن و ق ر ک ب ک ا و ر ح ت م و م ک س ع ل ک ز ن ک ن م پ ر ی

ت ک س ت د چ پ ل، ب ل م غ م ب ن ن م ح م ح ت ا ش ف م ں ک ت ر ی ا خ ن ا د

ا ش ف م و ج ب ا م م ح ت ع ا ب ع ل ا ن ک ح ص ت

ا س م ش ن ک، ح ت ا ش ف م ں ن خ ن ا ن ا خ ل و ج د ک د و ر ک ن ک ل ج ع

م ب ہ ب ئ ی، اور ج ط ح ع ا م ا ن س ک ص ا ط م پ ل ن ک ل ا ن ک ق د ت ر و ئ ی ک ا و ر

ج ا ن ا ز س ا ن ں ن ق م ک د ا ر ا و ر س ت ک ت و ت م ح ل، و م م ل ئ ی ا ش ف،

و ظ ئ ی ا ش ف، ص ئ ی ا ش ف ا و ر م ا ش ف ک م ش ر و ں ک پ ھ و ا ل ں س پ ش ن، آ پ ن

ت ع ک ل ....ج م ا ش ف............ک ب د ر ک ا و ر ل گ ں م د ی ت ک

ج ب پ ا ک ا س س م آ پ ن

کتب خانہ اشرفیہ

ک ب ا ص ح ف م ئ ی ا و ر م م ہ ت س ن د ر ا ت م ا ئ ی ت ک ع س ف ب ن ک ل

ع ء ک ا م ا و ر ط ء ک م ں ک س م ن ک ن پ ا ع ح ت ا ش ف م ں ن ا پ ذ ا ت م ر ف س

اشرفی پریس

قئک ج م ب ںدرکبط ئ اور1912 ع ی ت1911 ع یاسپ ی س م اشف ن

ر ج ک ادارات کفا ئ ح ت ملں اباالم س م م ث (م ث ا ع) ک ب خب

انمد ،سا م کذریل ئ اشفکرارودت ج بلؤسط پکگ

ح تاشفمں ن والنریسکبکبںکط ع شاو ع کج ن مجکچن

ا ن کت ی پناب عخںریسرامرن1191 ی م ل ئ اشفکط ع کائ

اورناب م ع ن ع خںظم ح رآبد ن چ ںدرکبںکط ع کذمداریاپسل،غض

کبںکاصحو ن اورط ع س ک خناشف م ا ی قباضف ا

ح تاشفمںکایکرنمی ب کانں ن عباورفرسکطحاردوس کبتق

دی، چ ناردوشاء کداوی کعو م تف، ف، کم، تریاور ط کب ج قر

سمیا ن اردوزبن م دسب او س ک خنکز ی بگ............ ک خناشف م

م ع اورغ م عکبںک م ع د ادکوب دس اسزید ق کبںکسڑھ

ست ازک ل ب ، ج م اکنی ںدر ،عبفرساوراردوتںزبنں م ت ،

ح ی،ف،کم،تریادباورط کگاںقرذخ مجد اورانحئکروش م اسبتک

بناناز لیجس ک مئکام ناپخن زنگ م یدوم کبشاو ع کست

ع اودبک ک حتا ن خمتانمدی "

(بال:اسم ک خ ن " م عنو ا ص د ص204ت206)

ک خناشفاع ح ت ع ال ک ح تسش ع ح اشفمںکچیقس

س الرانکگاںقرجوج کث ،اسوق آپکپپت ح تصرامیشا ع س

اظراشفاشفالنقس الرانک ، ح جوج سدرجعوجپپنچ ش

ا ع ن خب اشفسکرکں م ک خن ک ل ا ی وس وع ی شنار ف نعرت

تکادی ج کنم ح تعلربنسنلاا ظ کنمنمپ

ح تملںاحاشف ل

اورغثال ق م مومامئقسس کنمنمسبک ل ک ل ک خنکنم

ح تمراشفلئیی

خناد اشفکبکتوموستاور قناردک ل ای م ص ح

ح تاشف ح مزی

ببگ لکںروپںکسمیسدوردورسبپی م ک م عوقکبں کذخ بجکجر و قو قی آر، ج ک خنعو ت کتنک ل ساب کانمکد گ

م رعل م اسماوردی وراسموسسر ور الجس م غم ب ن ن اشف وک انل ن انبکتوانارکق ی سم ح فمکتیفمیت، "اگچاع ح ت ق کوگکگاخناناشف م ع کاعرس م رومزر م ح قر کوککبکساسزمن م دول عوکلسیگاناسقرململ اکاسک ن ن پئجت" (بال: م م ح ت م ن ن ق ص40)

م ماشفکاجاء

ا بط ن طبکوجدسفئ اٹیاوررسئواخرکسر اپ نیتک نیتکطفدھندی، چن فقاور گو کاخر، رسلت، ا ح ن برسئجری کرکت، احقح اورابلبطکف ی پریط ق سجریت کچ م سکآسن م ف

وع ک ام اج ا م ک ت ں ک اکب واول ءب ت وت ی ک ذوق رک ت م ط ع
واش ع ک طف تج ن فمت ا ع ح ت قس م ل ح رپنر م وم الولء م شالل
م ب رنہ سن ع ح اشف م ںقس س الرا ن ک دوارشاد روا ع ہب ک م م ع روحن
کاجاءب شم حج م زی ص ح نظ م ی نرس ع ھل ئی ی ی ر ق از :
" ح تاشف م ں ن اپاذات م رفس اشفپ ی ق ی ک ج م ب نہدر کب ط ئ
1921 ع ی تن1191 ع ی اسپ ی س م اشف ن ر ج ک ادارات ک افا ئ ح ت م لن
ابال م دس م م ث ن ب وخب ان م د ی اس م ک ذری ل ئ اشف ک اراد وتن ج بل ق
پ ک گ"

ج ری 1912 ج دی الول 1241 ی م م م اشف ک اجاء ا صل 2/ پ ا ع ح ت
دقس م ل ح رپنر م وم الولء م شالل م ب رنہ س ع ح اشف م ں ک چ ی
قس ال ران ک دعءنم فمن شئ ا، م م ا ور ج ج س ح رپنر ک دل دعؤں اور ق
خا ت ک آب رج ری تیفمت :
" م ا پ ر ب رت ک وت ل س ب ع ون زدعء ک تن ں ک ج طح اپ پر م ب ن دان
ح رغ ث الل ت ر ک ا ل م وم سن سن اشف ج ن سن رض ال ع وا رض ک ک نم
نم واس گ ام ک ع ب و ع ، چ ر دا ن ع ل م س ج دی اوار ن ک ہر گ م ع ل پ ک م ج خ ئ
فمدی، اوران ک فض وب ک ت س ل ک ں ت ک م ں ک س اب ک دی اوار ن ک ن ی اث س دل
کس وزر، م ج ک ص ح ث وت ب ج ی اور م ک ص ح دو ل ب اشف ب دی اس ط ح اس نم
پک ک ط ف ش ف ا ن ب ک و ک ا م ع فم ئ ک ر س ل اشف ک پ ی ا ای ن فم ک ق ب
م اس ک س ج د ، م ن اس ک ط ف ج پ ی اور ف ض وب ک ت س م ل م ل ت ر ، پ س
س اب ں اور

"اشرفی"اشرفی ج ئ

ا م رباسںچکاسدعءکشفقت ع ءفم،یرسلومیو م خیارکدعء
گ اور دعکتر گ، ج لگںکفس ن ارادت انکفض کاسرسلک
خیاریضورکیاوردوسوںکت غ دی، ی ماتکی ح دی کاسکعتکن
م کت ،ی یرسل"ش "سزید ن ب

قاباحالعمع ح اشفجن
سد ن آسنکچشیضفآہد

مرسالید

ح تد ،اکباولءپورگدراورعءا ا رکگار تاسک چ چ پروحنماکخن
اورع و ف کادار قئ ت م سسون ک مرسخ نکہ پ دیت ل اسدورادہبر
م باسکوجدت،خن اناروبکتاورفضرسنک م ت ، ح رپنراع ح ت موم
لاولء م برہنمشاللقسس لارانکد جن ب تتآپ ن م سفہیک ح ت
د مصا ل ا سکصفای مرس م فاشخن م مرس ن ن اع ح ت
موم لاول ن اسک کشت س م سفہیاورس م محمکقممرس م ک ل آمد
فہیچنانکحی م مرسلا ی قئ گاو ح رک ح س ح ت مثا ع ن
ںتیلکتریکرونید ب ح تص ح کروزنچ م درج ک11یذاح
1224 یشسسثہ 10/اکبکمثص ح د ک ل روان ئ ب ص ح ح ت
اکپرا س تپنن تی ل گ ح ر مثص ح ق قسس نحیپکہ
خ صدرسجریفہیعموفن خ صتجسپہئ

دارالعلوم نعیمیہ دہلی

د یک ع دارالم ب ح رپنارع ح ت م ومالولءقسس ک خ صعءت
والفکم ن م ر ، اسکتیتقتکساالسکاسمکطفبتج م ولفمئ،
اسدارالمکای ج کروئدارقالوف(شاد ا م ش ی) ک ن س وارا ل
امت م گری ت ، اس و ق دارالم م رںس رامپر ک ںمرعل وج الی خں
صرالر ی ت اور ح ردوردرازکسفمک ج ددسربی م ش ک فمئاوراای م ل
د ا د م روپ ط ک ر ک ل ح ک ت ک م م ع فمئ اور ح رپنرکتجدلن
س س عل اشفک واب نسکند ن ب ح ل" اسمرس م ملںعدالی ح ت
ملںوصاح م ثسرتن بصاراتترکی ورکندیت

جامعہ نعیمیہ مرادآباد

ح رپنر م ومالولءم شالل م برہنسع ح اشفمںک چیقسس
الرانک مرکقوم س ور ک کعقب رپ ف یب ا ح ر کمرکقوم س
مادآبدب ف یب ا، مادآبدا عکشت، خناد اشاف م ب ب علگر ، مارس،
ب قئ ت ، م دبی ی اور و ب پ ی ک جاث س مث ت، مرسامادی م ح ت
اسذا ل ءسگ م ص ح ولیکف ع جریت اسذا ل ءمرسامادی م م ب ت اور
شال ی ب ت، ن ی دجرصا ل اوسرطاوروسا م باورص ح ن ہرگ ت،
ح رپنر م ومالولءم شالل م برہنسع ح اشفمںک چیقسس الران
ج مادآبدت ی ل ج تاسذا ل ءمقتوزیرتک ل ت ی لت، ای اندو اپ
شگدرش ملں ن الی ص ح) صرالفض(کج نجان ت اپ ا لئ اور ح رک
خ م م پ کک عضکک اسفزنکقلفمکمک ن سسفازافمئاوراپ ب

م ل انک ت فمئبو ندتاوراسک ب ح رپنرکبجدکمسملںنالی

ص ح خب خب ف ب ئ دربر اشف ک" خ و"ک خ ب پن وا ل صرالفض،

فالمث، اسذا ل ء ،اممما ملںلالج ح س ن الیفض مادآہدی ن ح رپنر

م موالولءمشالل م برہنسع ح اشفمںکچیقسس الرانکدعؤں

کسی م تری کمرسا ن ا 1219 ی م قئفمہ اسمرسک ت ی اور

تی ج کن ح رپنر م موالولءمشالل م برہنسع ح اشفمںکچی

قسس الانراپوجدہف سنازاتر خش کفرغا ل کسوںپ ف ک

دسرہن ھ ،اندسربفء م ک د ادافادکح رسغمک ن بحص ئ،ای

خص ح ج ک م فراقسرکحص ئو ی ک ج طکسوںپ ح رنخص

جبس ف کدسرہنھ،انککلضورحص ا،زمن م انسعدیکرونقئ ئ

،چنجم ن ک عء م ح ت عم اباکلت عم اباحلسیات، ملںنرال ن ،ملں

ع النخں،ملں ع الشخں،ملںا ج ش ،ملںاح یرخں،ملںین ،ملںآل ح

س ،مرس ع ال مش جںپر م عمساحسکظ اورمرس م حںنا م ملں

ع ا ل حنکسوںپدسرہنھ ،یچ اسء ں ل گ،انکعو ب ب

1252 ی م مرسا ن ا سک ج تاسمقپ ح تعمسابالکتاشف

م ا ع پکنوشال یدارالمحبالحفل رن اپتی م فمیک

"لا لاسمرسکف ب عم گ، م کص فضاسس چ عمس فیب

ئ اورا سکتیتمارسہسءایدوک اسمرسسمیلق اور صب

م اسمرسکش خ اعکمکر ،سا ع النردس کیکا م حص ت ئاگ

مجا سنقاردیجئتی ا ریبارک گسا ل م تیکت ںکآجسمرس

عال سوج ع مادآہدکنم

"جمن"

رکجئ، کنیتمفضوبکتصرالفضدا م بکتکذاتببکتک اس

ل اسنمکشمکن ا ریفضششاوررتدانکد ل ب ،اوراسنمس اورمرسک

کففئ ب م ر ، ح تکنمنمآن سک ع اداراکجاعدسمکدل م آت و

ل تیوںاورب خ ںس ن س،اسمرسکجمکیحص و مادآبدشکوج

س ن ، ںکآبو اکوجسن ،بشگنشکفضکوجس ن، ایذاتببکت

کعوف اوراخصکیزور ج نسکل ،اس لاسنمکشم نمرسکعت

اوراسمکیکمف ،جںینمرکآت ،سج ع اورانکتمطاسطف

ج پت "

حتملنکایایحفکتیمنککتئکاورح رمثا ع ن

فمی:

ج م ن کسکترکاک ن کنماپذمل ںیوع ح تمصفک

یدر اوریکیدد نکامل ج م ح تن و کسممپنیخشاوروا ضاک

کاکک سمیاور ج کآخندفالکب، عالخ، م ائعرف، پائک م ، م

الفیؤضالوحنفتال زالفنشامئالام، ال ال م انءسالنم ع وعلاواصب

الا والم مشیوم شاللجم ال ی ملنالجا ل اباح م ع ح ص ح ک

دسمرکس کاکیکشیمرسعلکبدا ج ن ن کگ

دارالمحبالحف

پکنکمجعءوفءدارالم تمعئا سادارالمکفیفن ،

اسادارالمکح رپنرک خ ام ح تاسذالثملنالممسعدیارش ق قسس

ن قئیفمیتانکصحادگنعلقراساذا ل ءعم ساباالکتاشف م ا ع پکن
اورح تعمابالحسیاتاشفصرمہعء ع ئپکن خ م وزیخن پاونچھی ح ر
پنرکعیتاورانتںپہبپںحپسفوںت، اسک ج ں م ش ک فمتل ر
ت ی ل جتنادارال محب الحف م دودوم قمفمتاسادارال مک باکفر غ
ح رپنر موالوءکس م اد خا ئ اوآج ج انسرکل جر ، یمجم ئ
کاماورمکعءکرک ح اخ رکچ

عو بکتبط اوارارورحنک م بربن شغثال ع شا م ئ ح تسش
اباحالعم ع ح اشفاشفمںاال نرحال ع ای خصاعرس م ظ ب
آ ن ںک ل باای ع تیدل ت ی آپکاکم ئکامن آپکج اع م ب
سنابم م الی ع الدرجن قسس سشورصتر م ن ی م ببنک اس
تیارہب م تاپرورحن م وں م کت ںگ ص ئ اشف م ک.......

ہم شبـــیہِ غوث الاعظـــــم

م ببرن شام ئ ح تسش اباحالعم ع ح اشفاشفمںاال نرح
ال ع ح م ئکام ا ح الج ن کبپشغثا ل س م وفاورجن پن
جتتچن شمہر م س ح تقو ال ل ملنسش 'الِرسلمہر وی ع الح ن
اع ح تاشفمں ع الح کشغثا ل سیدفمہی

اما ما اماحرضفضبیی ع الح ک ج م م اکان کپوم شح ت
'الِرسل ع الح ک ط زید نسر آپخدبضزاجپسمہر ش ی ت ی ل گ
ح تآلِرسل ع الح اع ح تامماحرضفضبییکدیکفمیک م پسسکر
غثا ع ع الحوالصانکامن ج اولدغثا ع م ش غثا ل ملنسش

ابا حا م ع ح اشفکچیکسکن اور پ کدی اور واس وق شاماۓ م اب
ح تظمالیاولۓ چ رضالع ک آسنپ ماب م م مقت گ
چ نال امما حرضخںفضبیی ع ال حلدت ی ل لۓ ح ت م اب
ع ال ح ک آسنپحضیدی پ م م ت ی لۓۃواق پکنن ک ب ج اع
ح تاشفمںک چ ی ع ال حکم اپِ م م پہاورب ج فالی ی شک:

اشرفی اے رخت آئینۂ حسن خوباں
اے نظر کردہ و پروردۂ سہ محبوباں

اے اشرف میں سرکار! آپ چ انر ح وخ بکا آئ
آپ تں م ب1ک پورد اور ن ک د

1. م بسنغثال ع ش ع الدرج نرضال ع)بادش ی (
1. م اب سنامۓ ح تظمالیاولۓباین چ رضال ع (د)
2. م بنادنغثالل سن م وم ساشفج ن سنرضال ع)ک چ ش ی (

پ عضمعک اع ح تاشفمںک چ ی ن مر ش ی م حضیدی ح ت
سش آلِ رسل ع ال ح ن س ع لقدربیکتکاجزتاورخ ف ب اوریفمہک ج ک
ح تاستیامن پ ندی اس ک ب ح ت آلِ رسل ع ال ح کاع ح تاشفمں
ک چ یخ تال ۓ ک ۓ (ص ۓ اشف(

یہی نقشہ ہے یہی رنگ ہے ساماں ہے یہی
یہ جو صورت ہے تیری صورت جاناں ہے یہی

غلط فہمی کا ازالہ

اع ح تاشفمں کچ ی ع ال ح ک آل رسل مہر وی ع ال ح سدوئم ربالن
1196 یکاجزتوخفحص ئ اور 11/ذی اح 1196 ی کانکوصل ا، خنان
بکت م ح تملںسش م مں مہر وی ن ح تملںاحرضفضبیی ع ال ح ک
ختال ءتیفمہ ج ک ح تفضبییک 15/جدی الخ 1194 ی م ب ک
شفاوراجزتوخفک ن حص ئ (حت م مولاء م بربن)
خناد اشفک م رو م وفبرگاع ح تاشفمںک ب، خمتاورارشادات
کدائک سوتاک ک ح ءتی م لں م ع خدیسزنگککآخیگیتاسمک
ب واش ع م سگداں ر اور م وم م کناوش ع ک ل ت عخکپنکت
ر لکںگگارا کرا م پگزنفمہ تنعموم فاورشنشحکجم م ف
سسرککح کرا دکئ بوارشدک جبکرفمتکآپ ن وپکک مساب
رس م ل اس م کسوس ح فمئ اسوجلگ آپ م موجنںجں گ کپتاور
موماشفک م اتوح ج ن ک ل اسض م آپکمیوںک د اد(1200000)
12لکاورخءک د اد(1250)سڑھ ت سسزائپنگ 1

1م م وبوای دیمیوںک د ادچ ل لکاورخءکامک د ادوو ارسزائ
آپبرگندیوسص ل ک ن قمپ چ ئس ح ک ل ناور ئ آپک
م صفبدیتاس ن م ک ل آپ ن وسناورعبم ل کطلوعض م
کمبدور ک لکںغ م ںک م فباسمکاورلکںافادآپکدسمرکپ
تئ ئ آپکذاتس س اشفکباوفغحص اآپک ع وروح ش کدیک
وسن، پکن، ب دی، نل اورعبم ل م عن، ج ، ال م، میالر، شم،
ح ، تک، عاق، م ، ی ک ج عءکامن آپکدسمرکپ ب کاوراکعءکام

اورسدات ع مکروحنت ب ک ب س عل اشفک خ ف سنازاانع ءکام اورسدات

ع م م :

مشہور خلفائے کرام

- ح تعما ل الجال م ال ی ا ل متا ل   ال م
- ح تعما ل الجال م ال ی ا ل آلسرال ل ﷲمک ا ل م
- ح تعما ل م باحمنکدیالشفرح ال ع
- ح تعما ل قضفالیالشفرح ال ع
- ال ح اباالدالنالنری ع الح ا ل مینر
- ال ع ابالدبا ل اببالشف ع الح ا ل مینر
- ال م بءالیخ حفﷲ یالن ع الح قالا ل ا ل مینر
- ال ح تا ل احالانالشف ع الح مینر
- ملنالضا ل م ع ح الشف ع الح ہبال ممینر
- اولیالفمعءالیا ل یالشف ع الح مینر
- جبا ل م الیالشف ع الح ہبالح مینر
- ال ح تعم مصلصفالشف ع الح د م   م شم
- ال ح تعما ل م ع ال ح الشف ع الح م ی
- فالنعبالن ح تسش نراشفاشفال ن ع الح
- خ و"دربہراشف"صرالفض ح ت م ن الیاشفمادآہدی ع الح
- ابالمعمسم ا ل وفم ثا ع   اشفال ن ع الح
- م اسم ح تملنش ع ا ل م ٹ صیمن ع الح
- فا ل ء ح تعمسش مفخاشفالآہدی ع الح
- ح تملنم ع اﷲیاشفبادرح ت م ثسرت ع الح

- م اسم ح تسم مغم ب م ن ن اشف ع الح
- اسذا ل ء ح تعمملنسش امح اشف ع الح
- ابا ل ح تملن خ الیاشف خ الش بیی ع الح
- م اسم ح تملنغم ق الیاشفب ری ع الح
- ق ربنملنسش ط اشفاشفالند ی ع الح
- امال ثسدیارع ش م ثالاری م ا ع ل ر ع الح
- تجا ل ءملن م معاشف ن فضمادآہدی ع الح
- بالم ح تعم م ع ا ل ح ن ح الش اشف ع الح
- م ا ع پکنعمسش ابالکت اشفل ری ع الح
- م قآنعمسش اباحٰسۂاتاحقدریاشفل ری ع الح
- خ ا ع ملنش عرفالاشف م ٹ ع الح
- م م ح تعمش ح الح اڑیی ع الح
- م ش ح ال م ح تعم م ماحیرخں ن اشف ع الح
- علربنسنالا ظ ح تسش احاشفاشفال ن ع الح
- حالسم ح تعمش حمرضخںبیی خ اکامماحرضخں ع الح
- اسذا ل ء ح تملن م م ع الشخناشفنگری ع الح
- اسذا ل ء ح ت ملنمیناشف س ع الح
- ا م ش ی ح تملنش مرفق ح اشف کنری ع الح
- ق می ح تملنا ل مضءالیمن ع الح میشی
- رئ ا ل ح تملنسسناشفاشفبری ع الح
- م کصرا ل ءاممال ح تغمج ناشف م ٹ ع الح

- جالحف م ح تملںعالن اشف م ثمادآبدی ع الح
- ابال ح تعمسم ب اشفاشفال ن ع الح
- ح تملںا ل سش ع النا شف ع الح مینر
- اذسا ل ء حتعمملںم ع ح اشفمن ع الح
- پط ی ح تسش نیال اشف ع الح چٹم
- غثِوق سکرکں ح تسش مراشفاشفال ن ع الح
- اذسا ل ء حتعمعرفالش قدری اشف ع الح
- پط ی ح ح تسم القال اشف ع الح
- اذسا ل ء حتعمغمقدر اشف ع الح
- پط ی ح تسال ح اشف س ع الح
- ح تعم م م ح اشف س ع الح
- ح تعمغمع اشفاوکڑوی ع الح
- پط ی ح ساشقاح اشفال ن ع الح
- ح تعم م ابذررو فاسائواثر اشف س
- پط ی ح ساخقاح اشف ع الح
- سش غم م الیلاری اشفاولد م وجمںجنں گ ع الح
- ابلحسیات ح تسم احاشف ع الح ل ر
- اذسا ل ءملںم م قاحکنری ع الح
- م الس الی لنا ل ملں ح ا ی اشف ع الح
- سمصی خ ا ل قسمحثی اشف ع الح پواشی
- ح تملںسش ابا ل ال وفبابال اشف ع الح

- حتملںسش ن اشفاشفالن عالح جئ
- حتعمملںم عالاشفگ عالح
- م آگ حتملںمنراحکنری عالح
- اسذز م حتملںش حا ح فضکنری عالح
- مثا ع پکن حتملںسداراح عالح پکن
- حتسش م م اشفاشفالن عالح
- حتعمم عالش ص ح اشف عالح سنھش ی
- حتعمغممتناشفامتی عالح
- خ ال ءملںنیاح خیاشفمٹ عالح
- سش مس ح حریمناشف عالح
- حتملںسش غمع م اشف عالحا ج شی
- ابالفن حتعممعرف ح اشف عالح د
- شامئ خ زیالبیقدیرفعصبی چ اشف عالح
- اسذا لء حتسمماںاشف عالح ب
- حتعمملںماحمرصیاشف عالح مٹ
- حتعمقضمایب ح اشف عالحبایںشی
- ابالکت حتملںاحاشف عالح الر
- اسذا لء حتعمع ال خیاشف عالح
- شال ء حتما ح ال فضیح یاشف عالح غزیپر
- ابلء حتعمریضلاراحصیاشف عالح
- سش ج اشفاشفالن عالح کچشی

- ح تعمم بصی اشف ع ال ح جبافی
- فا ع ح تعمملنمیس اشف ع ال ح
- ح تحج خ اح زبن اشف ع ال ح
- ح تعمملنعالش پوریال یاشف ع ال ح
- ابالس ح تعمملنانعنز اشف ع ال ح
- شامئ ح تسش فاع اشف ج ناولد م بسن ع ال ح
- ح تعمملنسش عہدم اشف ع ال ح
- ح ت ح سآل ح اشف پری ع ال ح
- ماحرسلملیم اکخں اشف م مداک ع ال ح
- اسذا ل ء ح تملن م امزاح اشف ع ال ح
- ح تعمملنعال اشفالل اروی ع ال ح
- ح تمصفجنکم ع اشف ع ال ح
- اسذا ل ءملنال ع ا ل صی م ٹ ع ال ح
- اسذا ل ء ح تعمملن م ع ا ل انلی ع ال ح
- ح تملنع الحاشفاباسذال ث ح تملنوصاحسرت ع ال ح
- شامئ ح تملنرسع اشفاکآبدی ع ال ح
- م اسم ح تال رکالی اشف م رکالی ع ال ح
- سش شرالیفدوسبریآسن مومج ںشفالیی م ی ع ال ح
- م اسم ح تش مقئ ق ساجاشفدانپری ع ال ح
- موم م ح تسداراح چ قدریاشف ع ال ح

(بال:ح ت م ومالولء م ب رہن ص251ت201)

کاسئ گامقبذک   انعو سڑھ ت س (1250) ک دا د م خ ئ

کام   جعوف وروح ن م اپاپ ج ب م مرک   اورانک ذری   وسن، پکن،

بدی، نلاورعبم ل م س اشفکخباش ع   ئ


UTTAR PRADESH
Mak
Akbarpur
HINDUSTAN
Jalālpur

ماخذ

اسئ ک	م / ل م
قآنکی	امک
کالین	ییبںخضرحامام ال اما
مبتاشف	نمالنس ن جفشاسنادنب م
ام السار	چ ح ال ع ت ح
ل ئ اشف	ی یلامظںلمت ح ئ ل با
ص ئ اشف	یچکںمفشات ح عانہرب م
پوکن بت	یواحاف مع ت ح
طیال گل	یواحاف مع ت ح
اخرال ا ر	ی دث م ال ع ش
خاجگ دراز	حایلالقا
خیلاصء	ری لدوسمغ م
کت ن یخی	یرقدصم
حتاشفج ن سن	یچکفشاحوکاڈ
ح اتال س	ی سیلارہمع
م مجتنا	نیابیردق ل ا ع فح
ت ئ اشف	یچکںمفشات ح عانہرب م
خ اوچپک	بش ح د م
فئمہٰاطبروعفن ق الار	یارمعرمس

تریفت	مقسفت
شعپشف	موماﷲسب م اث ع
الاکالرای	عمجن م ب مقن
تریخ ءعب	ا م ک ال اءکآہدی
ت اشف	شالسم ح تعم سمنمںاشفاال ن
دراﷺم	ع انرقدری
فوزالت	عمفوزالی
تک م درسظم	پوفاخار
ک ال ن	م ب ع اال ل ججح خ
تتس	شالسم ح تعم سمنمںاشفاال ن
خ فنماشف	منلصلورودلی
تریم ئ چ	خ احظم
تریاسم	منلاکش ن آہدی
حت م اث ع	منلم ذاک ح اشف
اسم ک خ ن	الجمزی
ختمہتاشف	حجال م اال ی س ع الزاقنرا ل الاا
ت ئ اشف	ش غ راشف
اشفاالئ	م بنادناسفاشج ن سن
ت ئ اشفرفدظاا ئ شف	ع م م سط اشفج ی
حت م ومالوء م برہن	شاد ا م ش ی ح ت م م داحقدری
ساشفج ن سنک ع خمتک ی جئ	ح تع م س م اشفج ن

وظ ئ اشف	م برہنا ع ح تاشفمںکچی
م مغثالل	شاد اش ع عمسم اشفج ن
م مجمنر	ح تعمخشنران
م مم نر	ح تعمما ف م ح

آخ م ....

ال ج ج لان ع سںکاج ع ع فمئ ج ککہںکمدسب تلاسکمکپی ت

تپنیاور م ب م نو م ر ںان ع سںک ج ں ناسکم م م یخبخبمدکخصک

ح تعمولہ ح ت م عاریشافق م للا(خن اریشافج ن یگا)

خ

ح راشفا ل ء ح تعمسحمافشافشال ن م ث ب قسق ک چ ش ی یپ

ح رنرالرف ح تخاجصفڈاکم اشرمںص ح ق عظمہیج ن ی ع گھیپ

ح رفام ئ ح تملنسفالیشافشافال ن سلہاریکچ ش ی یپ

ح رسام ئ ح تملنس م قاشفاشفال ن سلہاریم للا یپ

ال ج ج لتم مونومدگرکاج ع ع فمئ آ م

متآئدرنصال ع وسپس

ورنتڑیسز م شسںکقی

فقدریگائ اشفسں

آلِرسلاحالشفالدری ک ری

املمری ال باسلعؤدی

9ذیاح 1426 یبوزچرشیمعف

Email: aalerasoolahmad@gmail.com

نھ:ٹ ئ م ک غ ن آئضٹوراطعکی م خش گاوارلاآپکاجد گ انشءالتل

چوظ

بنزف : یعنیالاا یمت
بنزظ : یکییالاا یمت
بنزع : یجریالاا یمت
بنزم ب : یسریالاا یمت
بنزع ء : یغریالاا یمت

نزکبآیلسا ی مت، م ٹح ی لالالوح لشی للا ل لو
الوھ ع کسقیدسمت، ی بآوازسکازکت ربہ سنال22مت، الا ل 22
مت، الاک24مت، م ت ی سنالوال ل لولاالاالاوالاکولحلولق الہال
الا ل ای متپھک درودش ی ج قرزید پھسپھک

درودشی ی

اللهم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد
کما تحب وترضیٰ بان تصلی علیه ﷺ

اسراولء

استغفر اللّٰه ربی من کل جمیع ما کره اللّٰه
قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة اللّٰه با اللّٰه العلی العظیم

روزانسہرپ ھ والچسلں کب گ ںس م ظفملجت

اسرمئ

سبحان اللّٰه وبحمده سبحان اللّٰه العظیم وبحمده استغفر اللّٰه

روزانسہرپ ھ والرزقوسپت

دوسوں ک درمنکدعئ

رب اغفرلی، رب اغفرلی، رب اغفرلی (سنن ابی داؤد)

اے م ے رب! م م فکد ے، اے م ے رب! م م فکد ے، اے م ے رب! م م فکد ے

اللھم اغفرلی وارحمنی واھدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی

ا الع وج ! م م فکد ، م پ رح مف، م ا ی د ، م ن ن پر کد ،

م ع فد ، م رزق د اور م ب ی ع مف (س ابداؤد، ج م ت م ی، س اب مج)

درود ش ی

اللھم صلی علی سیدناومولانامحمدوسیدنادم وسیدنانوح وسیدناإبراھیم وسیدناموسی وسیدناعیسی وما بینھم من النبیین والمرسلین صلوات الله و سلامه علیھم اجمعین اللھم صلی علی سیدناجبرائیل وسیدنامیکائیل وسیدنا إسرافیل وسیدناعزرائیل و حملة العرش و علی الملائکةوالمقربین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین صلوات الله وسلامه علیھم اجمعین

زارپ ح ض ی گ ط ی

فم ن س ا ع ح ت ام ام ح ر ض ر ح ال ع :

ز ی ر ت ق م ک م ا ج م ک کاوراس ط ف س ج ئ ک اس ک ن س م ، س ن س ن

آ ئ ک س ا ٹ ک د ی پ م س او ی ل واب ک ل ا گ د ی ک ن چ ور ﷲ ب ھ ئ او ر پ ھ ر ی و ل ک

زار ت اس ف ل – وال ت ال ع) فو ی ر ض ی ج 9 ص525)

زارپ د ع گ ط ی

ا ع ح ت ف م ت ک ت ف ک ب ا ز ئ ص ب ز ار ک وس س د ع ک اورا پ ج ئ م پ ک

پ س م ک ت او ا پ آ ئ ز ار ک ن ت ل ئ ن ب س د ط اف ب ال ت ق ن ج ئ او ر س ح ام (فو ی

ر ض ی ج 9 ص ﷲ 511)

زار ش ی ق پ پ ل ں ک چ د ڈ ا ل م ش ع ح ج ن ب ن ی ا چ ط ی

فئ ی

قوںپپلڈانک ج ت و تر گتکیگاسس م سکدلب اورر ح اتت

فوٰعل ی م کقوںپپلںکرکاچ

دیحالجتی ......

فوٰ ی ج5ص251،

فوٰامقضخں

امادالح

ردالر ج1ص606

فوٰرضی ج9ص105

زارپچردچھں

زارپ ج چردمجد خابن ئ بل کحت ن چتردچھںفل بجدامااس م صفککیلاکلوکایلوابکن ک ل کمجکدی (احمش ی ح اولص41)

آج چردچھ ن ک سکسل اوڑھلتشکستچدرل کجت ی غ شعاور غ طی اسطحکرواجںکاسام م کئ ج ن

پ،دیاریتکپفتدلں

لگںکک کفںپپش(یککئبگر) ر اورساپیدیاریتککپسجک م ئ، چلو(یکچ) پفتدلں، رپلڈان،لہنیاگبجںاور م ںم،امدیمنیسبتوا ت،بر، خافتاورج ںوالبوقفںاوربربدبت (احمش ی ح1ص11)

کبرگیشیولکحضیسیاریآں

اسطحیسککفںآمدیعرتپکبرگیشیولکحضی تیساریآت ی ب فلاورج ںککگھ ئبت کانںککبطحسمن کبساروحکانںیکچ م ن آس،ج ج انکاسطحکضورت ن اورج ج و آ ن س،جتاورشنضورک چیکجنریکانںک ج کگاںکن ک ل آس ادبشنجت م س ت ج

اننکستپا ت زنگباستر اوراسانن کمن کبیزنگ م کبی
ب کج م گ کاسزہنبل، اسکج م ندوساج اور پ جکہتسل
ال ج جل س ھ راسپچ ئ ی انء، شاءص ی، ص ل وراولءکامک راسپ
چ ئ اوشر ی کپبب ئ آ م

فتسن الولء م بنانو عالزاقنرا ل قسسہ

بوحاقس ح ت سن الولء رد تجالصء ع ال م زن الا ص، ع ع ن
م ، اوراثعمانءومس، کنعفن، جنای ن، م ئ خنانا چ ، م ئ دودمن مبسثی ،
ترکاملمکل والا ن، مشا ل ، اولد ح شکب، رنردی فطز ا، جگشء ع م ضلا،
ن ح ت م مضطفا ، سل طقط ی ، مل م ح ، م ائ اولءروزگر، پائ اصء
کر، صرہرگرکا م م ائ کثئیمخ اماخ ت او ق رمزحئا ، کشوقئ لم ،
سغقف ق عئ، شزفئ حئ، ش شن ا ی ، م انراوجول ی ، مذارہبشقو
عفن، م ذاصبذوقوجاں، م ئلان، شالسم، حفقاءتسج ں گ حودارب،
م ساوقتجلمہطتتجلال ی م اقیبفاھدی و م خ ل فضوغئم ب
سلنوم لھنوھالاقفقی م م القظثئ وا لمیمکن فمامالی، م صترہن، مردالف
سن ح ت ش مدانثن م ط ب خ ب م بنادن، سنومللوشءصورون و ط قب
م ائاولءک ح تام ک م ومسنساشفجنںج ن سنالمنرن ب رالنا
س النوبحوقاس ح تقو البارع ال ا رسوگں ح ا ل ، نلبسںبالن
نردی ح ت م ب سنسورس س عالدرج ن، م اساراشف، م اظرشفحج
ال م ال ی ، م ط ب خ ب نرا ل ، زب القفم ضالخقمہطانار م ع الطق
ح تسعالزاقنرا ل رضال ع م ج خ ءومیاںیرفتوسہراخصہصات
بان

Introduction to AIUMB

All India Ulama & Mashaikh Board (AIUMB) has been established with the basic purpose of popularizing the message of peace of Islam and ensuring peace for the country and community and the humanity. AIUMB is striving to propagate Sunni Sufi culture globally .Mosques, Dargahs, Aastanas, and Khanqwahs are such fountain heads of spirituality where worship of God is supplemented with worldly duties of propagating peace, amity, brotherhood and tolerance.

AIUMB is a product of a necessity felt in the spiritual, ethical and social thought process of Khaqwahs.Khanqwahs also have made up their mind to update the process and change with the changing times. As it is a fact that Khanqwahs cannot ignore some of the pressing problems of the community so the necessity to change the work culture of these centers of preaching and learning and healing was felt strongly. AIUMB condemns all those deeds and words that destabilize the country as it is well known that this religion of peace never preaches hatred .Islam is for peace. Security for all is the real call. AIUMB condemns violence in all its form and manifestation and always ready to heal the wounds of all the mauled and oppressed human beings. The integral part of the manifesto of AIUMB is peace and development. And that is why Board gives first priority to establish centers of quality modern education in Sunni Sufi dominated ares of the country. The other significant objectives of the Board are protection of waqf properties, development of Mosques, Aastanas, Dargahs and Khanqwahs.

This Board is also active in securing workable reservation for Muslims in education and employment in proportion to their population. For this we have been organizing meetings in U.P, Rajasthan, Gujrat, Delhi, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Chattisgadh, Jammu& Kashmir, and other states besides huge Sunni Sufi conferences and Muslim Maha Panchayets . Sunni conference (Muradabad 3rd Jan 2011)Bhagalpur(10th May 2010) and Muslim Maha Panchayet at Pakbara Muradabad (16th October 2011) and also Mashaikh e tareeqat conference of Bareilly (26th November 2011) are some of the examples.

HISTORICAL FACT AND THE NEED OF THE HOUR

The history of India bears witness to that fact that when Alama Fazle Haq Khairabadi gave the clarion call to fight for the freedom of our country all the Khanqahs and almost all the Ulama and Mashaikh of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat rose in unison and gave proof of their national unity and fought for Independence which resulted in liberation of our country from British rule.

But after gaining freedom, our Khanqahs and The Ulama of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat went back to the work of dawa and spreading Islam, thinking that the efforts that were undertaken to gain freedom are distant from religion and leaving it to others to do the job. Thus the Independence for which our Ulama and Mashaikh paid supreme sacrifice and laid down their lives resulted in us being enslaved and thereby depriving us legimative right to participate in the governance of our country.

After the Independence hundreds of issues were faced by the Umma, whether religious or economic were not dealt with in a proper way and we kept lagging behind. During the lat 50 years or so a handful of people of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat could become MLA’s, MP’s and minister due to their individual efforts lacking all along solid organized community backing as a result of which Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat remained disassociated with the Government machinery and we find that we have not been able to found foothold in the Waqf Board, Central Waqf Board, Hajj Committee, Board for Development of Arbi, Persian & Urdu or Minorities Commission. Similarly when we look towards political parties big or small we see a specific non-Sunni lobby having strong presence. In all the Institution mentioned above and in all political parties Sunni presence is conspicuous by its absence.

Time and again Ulama and Mashaikh have declared that the Sunni's constitutes a total of approximately 75% of all Muslim population. This assertion have lived with us as a mere slogan and we have not been able to assert ourselves nor have we made any concerted efforts to do so. It is the need of the hour that The Ulama and Mashaikh should unite and come on single platform under the banner of Ahl-E- Sunnah Wal-Jamaat to put forward their message to the Sunni Qaum. To propagate our message Sunni conferences should be held in the District Head Quarters and State Capitals at least once a year to show our strength and numbers this is an uphill task and would require huge efforts but rest assured that once we do that we shall be able to demonstrate our number leaving the non-Sunni way behind thereby changing the perception of political parties towards us and ensuring proper representation in every field.

AIMS AND OBJECTIVES OF AIUMB

To safeguard the right of Muslim in general and Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat in particular.

To fight for proper representation of responsible person of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat in national and regional politics by creating a peaceful mass movement.

To ensure representation of Sunni Muslim in Government Organization specially in Central Sunni Waqf Boards and Minorities Commission.

To fight against the stranglehold and authoritarianism of non-Sunni's in State Waqf Board.
To ensure representation of Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat in the running of the state waqf board.

To end the unauthorized occupation of the Waqf properties belonging to Dargahs, Masajids, Khanqahs and Madarasas, by ending the hold of non-Sunni's and to safeguard Waqf properties and to manage them according to the spirit of Waqf.

To create an envoirment of trust and understanding among Sunni Mashaikh, Khanqahs and Sunni Educational institution by realizing the grave danger being paced by Ahl-E-Sunnah Wal-Jamaat. To rise above pettiness, narrow mindedness and short sightedness to support common Sunni mission.

To work towards helping financially weak educational institutions.

To provide help to people suffering from natural calamities and to work for providing help from Government and other welfare institutions.

To help orphans, widows, disabled and uncared patients.

To help victims of communalism and violence by providing them medical, financial and judicial help.

To organize processions on the occasion of Eid-Miladun-Nabi (SAW) in every city under the leadership of Sunni Mashaikh. To restore the leadership of Sunni Mashaikh in Juloos-E-Mohammadi (SAW) wherever they were organized by Wahabi and Deobandis.

To serve Ilm-O-Fiqah and to solve the problem in matters relating to Shariah by forming Mufti Board to create awareness among the Muslims to understand Shariah

To establish Interaction with electronic and print media at district and state level to express our viewpoint on sensitive issues.

Ashrafe–Millat Hazrat Allama Maulana Syed Mohammad Ashraf Kichhowchhwi
President & Founder All India Ulama & Mashaikh Board
Email : ashrafemillat@yahoo.com
Twitter : www.twitter.com/ashrafemillat
Facebook : www.facebook.com/AIUMBofficialpage Website: www.aiumb.com

Head Office :
20, Johri Farm,
2nd Floor, Lane No. 1
Jamia Nagar, Okhla
New Delhi -25
Cell : 092123-57769
Fax : 011-26928700

Zonal Office
106/73-C,
Nazar Bagh, Cantt. Road,
Lucknow.
Email : aiumbdel@gmail.com

ان شاء اللہ عزوجل

رومن اردو میں بہت جلد آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائیگا

تذکرہ

خلفائے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچھوی علیہ الرحمہ